

سلسلہ
مواعظِ حسنہ
نمبر ۱۰۵

لذتِ اعترافِ قصور



شَيْخُ الْعَرَبِ عَارِفُ الْبَيْتِ حَضْرَتُ أَدْرِغُولِ الْأَشْأَحِيكِيَّةِ مَحْمُودِ بْنِ صَالِحِ بْنِ كَامِلِ بْنِ
وَالْعَجَمِ

خاتقہ امدادیہ اشرفیہ: گلشن اقبال، کراچی

www.khanqah.org





بہ فیض صحبتِ ابرار، یہ دردِ مجیب ہے | محبت تیرا صدقہ ہے شمرتے ہی کے نازوں کے
 بہ اُمیدِ نصیحتِ دوستوں کی شائستگی ہے | جو میں نے شکر کرتا ہوں عزائم تیرے نازوں کے

انتساب

اعقر کی جملہ تصانیف و تالیفات

مرشدنا و مولانا محی الدین حضرت اقدس شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 دور

حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 دور

حضرت اقدس مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 کی

صحبتوں کے فیوض و برکات کا مجموعہ ہیں
 اعقر محمد خست عرفا اللہ تعالیٰ عنہ

ضروری تفصیل

نام و عَظ:	لذتِ اعترافِ قصور
نام و اعظ:	شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام ظلہم علینا الی مائةٍ و عشرين سنةً
تاریخ و عَظ:	۵ رجب المرجب ۱۴۱۹ھ مطابق ۲۷ اکتوبر ۱۹۹۸ء، بروز منگل (بعد فجر و بعد مغرب دو نشستوں میں بیان مکمل ہوا)
مقام:	مسجد حمزہ، لینینشیا، جنوبی افریقہ
موضوع:	اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ... الخ کی شرح
مرتب:	سید عشرت جمیل میر صاحب خادم خاص حضرت والادامت برکاتہم
کمپوزنگ:	منفتی محمد عاصم صاحب مقیم خانقاہ امدادیہ اشرفیہ، گلشن اقبال، کراچی
اشاعت اول:	محرم الحرام ۱۴۳۴ھ مطابق نومبر ۲۰۱۲ء
تعداد:	۲۲۰۰
ناشر:	مکتب خانہ مظہری
	گلشن اقبال - ۲ کراچی، پوسٹ آفس بکس نمبر ۱۱۱۸۲



فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات
۶.....	اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ... الخ کی عجیب تشریح
۶.....	جَهْدِ الْبَلَاءِ کی پہلی شرح
۹.....	جَهْدِ الْبَلَاءِ کی دوسری شرح
۹.....	كَذَلِكَ الشَّقَاءِ کی شرح
۱۱.....	شاہراہ اولیاء کو مت چھوڑو.....
۱۲.....	يُرِيدُونَ وَجْهَهُ كَلِّ لِرَادَةِ خُونِ تَمَنَّا بَعْضِي ضَرُورِي هِيَ
۱۴.....	باوفا، باحیا، باخدا رہو.....
۱۴.....	قدرتِ تقویٰ ہر ایک میں ہے.....
۱۶.....	شیخ کے مواخذہ پر اعترافِ تصور کی تعلیم
۱۷.....	آیت رَبَّنَا ظَلَمْنَا... الخ سے ادبِ اعترافِ تصور کی دلیل
۱۹.....	بے ادبی کا سبب کبر ہے.....
۱۹.....	اغلاط کی تاویلات میں نقصان ہی نقصان ہے.....
۲۲.....	شیخ کی نظر مرید کے تمام مصالحِ دینیہ کو محیط ہوتی ہے
۲۳.....	خدمتِ شیخ کے لئے عقل و فہم کی ضرورت ہے.....
۲۳.....	دو نعمتیں: (۱) اتباع سنت، (۲) رضائے شیخ
۲۴.....	شیخ دروازہ فیض ہے.....
۲۶.....	عقل عقل سے نہیں فضل سے ملتی ہے.....
۲۷.....	اصلی عاشق شیخ

- ۲۹..... موزی مسرید
- ۳۰..... حضرت والا کی ایک خاص دعا
- ۳۱..... رموز احکام الہیہ کے درپے نہ ہوں
- ۳۱..... دین کا کوئی مسئلہ یا بزرگوں کی کوئی بات سمجھ نہ آنے پر کیا کرنا چاہئے؟
- ۳۲..... شیخ کی کوئی بشری خطا نظر آئے تو کیا کرنا چاہئے؟
- ۳۳..... شیخ کی برائی کرنے والے کا علاج
- ۳۵..... معترضانہ مزاج والوں کے لئے ہدایت
- ۳۶..... اپنی ناراضگی کو مرید پر ظاہر نہ کرنا شیخ پر حرام ہے
- ۳۶..... شیخ سے بدگمانی حماقت ہے
- ۳۸..... شیخ پر شانِ رحمت کا غلبہ ہونا چاہئے
- ۳۹..... شیخ سے بدگمانی شیطانی چال ہے
- ۴۰..... شیطان قلبِ مومن کو غمگین رکھنا چاہتا ہے
- ۴۲..... سُوءِ الْقَضَاءِ کی شرح
- ۴۳..... بعض بخفار کے قلوب پر مہرِ کفر ثبت ہونے کی وجہ
- ۴۶..... شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ کی شرح
- ۴۷..... ازالہ جبابتِ معصیت کے لئے ایک دعا اور اس کی شرح





لذتِ اعترافِ قصور

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ!
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

(سورة الاعراف، آیت: ۲۳)

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ
الْبَلَاءِ وَكَذَلِكَ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ
(صحيح البخاری، كتاب القدر، باب من تعود بالله، ج: ۲، ص: ۹۷۹)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ... الخ کی عجیب تشریح

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَكَذَلِكَ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ اے اللہ!
میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں سخت ابتلاء سے اور بدبختی کے پکڑ لینے سے اور سوئے
قضا سے اور دشمنوں کے طعن و تشنیع سے۔ محدثین نے جَهْدِ الْبَلَاءِ کی دو تفسیریں
کی ہیں۔

جَهْدِ الْبَلَاءِ کی پہلی شرح

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی عظیم الشان محدث ہیں

فرماتے ہیں کہ جَهْدِ الْبَلَاءِ کی دو شرح ہیں، ایک ہے قِلَّةُ الْمَالِ وَ كَثْرَةُ الْعِيَالِ مال کم ہے اور اولاد زیادہ ہے، کسی کے ایک درجن بچے ہیں مگر ان کے لیے دودھ وغیرہ اور تمام ضروریات کا انتظام نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اولاد کا ذکر فرمایا ہے وہاں پہلے مال کو بیان فرمایا ہے:

﴿رَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾

(سورۃ النوح، آیت: ۱۰)

تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، وہ بہت بڑا غفار ہے اور خطاؤں کو معاف کرنے کے بعد وہ انعامات بھی دیتا ہے، دنیا کے حکمراں اگر معاف کرتے ہیں تو صرف سزا سے نجات دے دیتے ہیں لیکن اللہ پاک جس کو معاف فرماتے ہیں اس کو انعامات سے بھی نوازتے ہیں اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اپنے رب سے معافی مانگو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وہ بہت بخشنے والا ہے اور بخشنے کے بعد تم کو کچھ انعامات بھی دے گا:

﴿يُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَذِينُ﴾

تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا، تو اولاد سے پہلے مال کا وعدہ اسی لیے ہے کہ انسان گھبرائے نہیں:

﴿وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهَارًا﴾

اور تمہیں باغات بھی دے گا اور نہریں بھی دے گا تو معلوم ہوا کہ اگر انسان کے پاس باغ بھی ہوں اور آب پاشی کے لیے نہریں بھی ہوں تو یہ نعمت ہیں اور دنیا کی نعمتیں تو فانی ہیں مگر آخرت میں ان شاء اللہ بہت کچھ ملے گا۔

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو جو دس سال کے کم عمر صحابی تھے ان کی والدہ کی درخواست پر اسی اسلوب پر دعا دی جس اسلوب بیان پر کلام اللہ نازل ہوا ہے:

((اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي مَالِهِ وَوَلَدِهِ وَأَطْلُ عُمُرَهُ وَاعْفِرْ ذَنْبَهُ))

(مرفأة المفاتيح، كتاب الايمان، ج: ۱، ص: ۱۳۹)

تو سوره عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِئْتِنَا عَالِي رُؤْبِهِ مال کو پہلے بیان فرمایا۔ یہ چار دعائیں اتنی جامع ہیں کہ ان میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی اور اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے مال میں اتنی برکت ہوئی کہ کھجور کا جو درخت میں لگا تا تھا اس میں دو فصل آتی تھیں اور میرے علاوہ تمام صحابہ کی ایک فصل ہوتی تھی تو بعض صحابہ نے سوچا یہ برکتی آدمی ہیں تو اپنے لگائے ہوئے درخت کے بارے میں ان سے کہا کہ تم اکھاڑ کر دوبارہ لگا دو تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے لگائے ہوئے درخت اکھاڑ کر دوبارہ لگائے تو ان میں بھی دوبار فصل آنے لگی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاں اولاد اتنی ہوئی کہ فرمایا میں نے دو کم سو اولاد اپنے ہاتھوں سے دفن کیں دَفَنْتُ مِنْ صُلْبِي مِائَةً إِلَّا اثْنَيْنِ یعنی اٹھانوے، یہ عربی کی بلاغت ہے ورنہ یہ فرماتے کہ فِائِي دَفَنْتُ مِنْ صُلْبِي ثَمَانِيَةً وَتِسْعُونَ ہم نے اٹھانوے اولاد دفن کیں لیکن طرز بیان یہ ہے دَفَنْتُ مِنْ صُلْبِي مِائَةً إِلَّا اثْنَيْنِ، ہرزبان کے بولنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے۔

اور عمر کی برکت کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ فرماتے ہیں کہ بَقِيَّتُ حَتَّى سَيِّدَتُ الْحَيَاةَ - سَيِّمَةً يَسْتَمُّ كے معنی تھکنے کے آتے ہیں جیسے فرشتوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں لَا يَسْتَمُّونَ یہ تھکتے نہیں ہیں، رات دن یہ سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں، نہ ان کو سونے کی ضرورت ہے، نہ آرام کی، عجیب مخلوق ہیں یہ۔ اسی لیے فرشتوں کے لیے نیند نہیں ہے کیونکہ نیند تھکاؤ کو دور کرنے کے لیے ہے اور ان کو تھکاؤ نہیں ہوتی۔ تو حضرت انس نے فرمایا کہ میں اتنا زندہ رہا کہ زندگی سے تھک گیا اِخِرُ مَنْ مَاتَ مِنَ الصَّحَابَةِ بِالْبَصَرَةِ حضرت انس کے انتقال کے بعد بصرہ صحابہ سے خالی ہو گیا اور چوتھی دعا وَاعْفِرْ

ذَنْبُهُ كَے بارے میں فرمایا کہ جب تین دعائیں قبول ہو گئیں تو اَرْجُو الرَّابِعَةَ چوتھی دعا کی قبولیت کی بھی امید ہے۔

جَهْدُ الْبَلَاءِ كى دوسری شرح

جَهْدُ الْبَلَاءِ كى ایک شرح ہو گئی یعنی مال كى كى اور اولاد كى زیادتی اور دوسری شرح ہے كہ ایسی مصیبت جس میں موت كى تمنا ہو كہ اے اللہ! مجھے موت دے دے اب تكلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ میں نے ایک مریض كو دیکھا وہ كہہ رہا تھا كہ مجھے موت كا نكلشن لگا دو، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ ایسی مصیبت اور بلا سے بچائے كہ آدمی موت كى تمنا كرنے لگے۔

ذَرَكِ الشَّقَاءِ كى شرح

وَذَرَكِ الشَّقَاءِ اور ہم بد نصیبی كے پكڑ لینے سے پناہ چاہتے ہیں، شقاوت كے بھی دو معنی ہیں بد نصیبی تو ہے ہی اور شقاوت كا دوسرا معنی ہے محرومی اور بخاری شریف كى حدیث ہے:

((هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْفِي بِهِمْ جَلِيسُهُمْ))

(صحیح البخاری، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله عز وجل، ج: ۲، ص: ۶۳۸)

جو لوگ اللہ والوں كے پاس بیٹھتے ہیں وہ محروم نہیں ہوتے۔ اس لیے جب كوئی اللہ والا یا اللہ والوں كا خادم آجائے تو اپنی تنہائیوں كى عبادتوں كو چھوڑ كر ان كے پاس بیٹھو یہاں تك كہ حكیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے كہ جب شیخ آجائے تو نوافل اور معمولات ملتوی كر دو، شیخ كے پاس بیٹھو، یہ نہیں كہ شیخ تو مجلس كر رہا ہے اور تم اکیلے اپنا وظیفہ پڑھ رہے ہو، شیخ كا قرب اور شیخ كى مجلس كے وقت میں نوافل اشراق سب ملتوی كر دو۔

مولانا رومی نے اس كى مثال دی كہ سبزی منڈی میں سیب خریدنے

کے لیے دھوپ میں چلنا پھرنا بھی پڑتا ہے اور بدبو الگ ہوتی ہے اور سیب کے باغ میں جاؤ تو سیب کی خوشبو بھی سونگھتے رہو اور سیب بھی کھاتے رہو، اگر سیب کے باغ میں ایک آدمی سو رہا ہے تو سیب کی خوشبو اس کے اندر جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ والوں کے پاس کوئی تہجد نہ بھی پڑھے تو بھی جب ان کے پاس سے اٹھے گا تو قلب میں نور پائے گا جیسے رات کی رانی کے نیچے چار پائی بچھا کر سو جاؤ تو رات بھر ناک خوشبو امپورٹ کرے گی اور صبح آپ کا دماغ تروتازہ ہوگا۔ اس لیے خانقاہوں میں سونا تہائیوں کی بیداری سے افضل ہے۔ وَكَذَلِكَ الشَّقَاءُ سے اگر بچنا ہے تو اللہ والوں کے جلیس بن جاؤ، آپ کو شقاوت کے پکڑنے سے تحفظ حاصل کرنا ہے تو بد نصیبی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جلدی سے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جاؤ لَا يَشْفِي بِهِمْ جَلِيسُهُمْ پوری کائنات میں شقاوت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بدبختی بد نصیبی سے بچنے کا پورے عالم میں کوئی راستہ نہیں ہے، آپ ساری دنیا میں بھاگے بھاگے پھرو شرقاً، غرباً، شمالاً، جنوباً مگر شقاوت پھر بھی پکڑ لے گی لَهَذَا لَا يَشْفِي بِهِمْ جَلِيسُهُمْ اہل اللہ کے پاس بیٹھ جاؤ تو آپ کی شقاوت پر لا داخل ہو جائے گا اور اس لا میں آپ کو حالاً و استقبالاً حفاظت کی ضمانت ہے کیونکہ لَا يَشْفِي مَضَارِعَ كَالْفَرْعِ ہے۔ یعنی آپ کی مستقبل کی بد نصیبی سے بھی اس میں حفاظت اور ضمانت ہے۔ شقاوت سے فی الحال بھی محفوظ اور آئندہ بھی محفوظ رہو گے، ان شاء اللہ بد نصیبی نہیں آئے گی۔ جو اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ مستقبل میں بھی بد نصیب نہیں ہو سکتے، مضارِع میں حال اور استقبال دونوں زمانے ہوتے ہیں لَهَذَا اللَّهُ وَالْوَالِدِينَ كَسَرْتُمْ كُسْرًا شَقِيًّا کے دوست خوش نصیبی کے ساتھ جیتے ہیں اور خوش نصیبی کے ساتھ مرتے ہیں۔

اس کی شرح علامہ ابن حجر عسقلانی نے شرح بخاری میں ان الفاظ سے فرمائی ہے إِنَّ جَلِيسَهُمْ يَنْدَرِجُ مَعَهُمْ اللَّهُ وَالْوَالِدِينَ كَسَرْتُمْ كُسْرًا شَقِيًّا کے پاس بیٹھنے والے

انہی کے ساتھ مندرج ہوتے ہیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والوں کو اللہ ان ہی میں لکھ لیتا ہے، فِي جَمِيعِ مَا يَتَفَضَّلُ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ اِكْرَامًا لَهُمْ اور وہ تمام مہربانیاں جو اللہ والوں پر برستی ہیں اللہ ان کے ساتھیوں کو بھی دے دیتا ہے کیونکہ یہاں مفعول لہ آ رہا ہے، مفعول لہ فعل کا سبب بیان کرتا ہے جیسے ضَرْبَتْهُ تَادِيْبًا میں نے پٹائی کی اس کی ادب سکھانے کے لیے تو تَادِيْبًا منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول لہ ہے اور اگر آپ نے مَشْدُوْدًا کہہ دیا کہ باندھ کر رسی سے مارا تو مَشْدُوْدًا اس کا حال ہے اور فِي الْمَسْجِدِ کہہ دیا تو مکان بھی آ گیا اور یہ مفعول فیہ ہو گیا۔ جَمِيعِ مَا يَتَفَضَّلُ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ اِكْرَامًا لَهُمْ اس میں اپنے پیاروں کا اکرام ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ اللہ والوں کے ساتھ رہو۔

شاہراہ اولیاء کو مت چھوڑو

ہمارے بزرگوں اور اکابر کا تعامل چلا آ رہا ہے کہ شیخ سے بیعت ہونا اور ان کے مشورے سے راستہ طے کرنا ہے، خالی علم سے نہیں، اپنے شیخ سے پوچھ پوچھ کے کام کرنا ہے تو مشائخ کا یہ تعامل شاہراہ اولیاء ہے، جو سپر ہائی وے کو چھوڑ کر کسی چھوٹی گلی میں گھس گئے ان پر ڈاکہ پڑ گیا، چونکہ سپر ہائی وے پر بہت سی موٹریں چل رہی ہیں تو ڈاکو بھی ڈرتا ہے کہ کسی موٹر میں کوئی صاحب اسلحہ ہو سکتا ہے۔ تو شاہراہ اولیاء کو مت چھوڑو، اسی پر چلو۔

آج جو کچھ اختر سے کام ہو رہا ہے یہ سب میرے شیخ کی دعاؤں کا اثر ہے، میں اپنے مریدوں اور احباب پر اس کو ظاہر بھی کرتا ہوں کہ یہ سب ہمارے حضرت والا کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اس میں کبر سے تحفظ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں ہے کہ اشرف علی کچھ نہیں ہے، سب حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اس میں نفس کی نفی

ہو جاتی ہے، اپنا کمال مت ظاہر کرو۔

لیکن یہ بات یاد رکھو کہ نری صحبت کافی نہیں کیونکہ **وَاصْبِرْ نَفْسَكَ... الخ** میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا حال بیان کیا ہے کہ **يُرِيدُونَ وَجْهَهُ**، مضارع سے بیان فرمایا ہے جس میں حال اور استقبال دونوں زمانہ ہوتا ہے یعنی حال میں بھی اور مستقبل میں بھی صرف میں ہی اُن کے دل کی مراد ہوں اور یہ میرے مرید ہیں۔ تو بناؤ گناہ غیر اللہ ہیں یا نہیں؟ لہذا اگر **يُرِيدُونَ وَجْهَهُ** چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ بھی کرو۔

يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کے لئے ارادہ خونِ تمنا بھی ضروری ہے

اگر گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرو گے تو اللہ کو نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے صحابہ کی شان بتادی **يُرِيدُونَ وَجْهَهُ** یعنی مجھے ہر وقت اپنا مراد بناؤ، ارادہ کرو کہ میرا اللہ مجھ سے خوش رہے اور ایک لمحہ بھی ناراض نہ ہو، **يُرِيدُونَ** کا فاعل **مُرِيدُونَ** ہے، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں پیری مریدی کا ثبوت کہاں ہے؟ **يُرِيدُونَ** کا اسم فاعل **مُرِيدُونَ** ہے، تو جو ارادہ کر کے اللہ کو اپنے دل میں مراد بنائے یعنی پکا ارادہ کرے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے کتنا ہی حرام مزہ آئے، ایسے حرام مزے پر کروڑوں لعنت بھیجو، نظر کی حفاظت کر کے غم اٹھانے کی عادت ڈالو، یہ نصیبِ دوستانہ ہے، نصیبِ اولیاء ہے، غذائے اولیاء ہے، اس کے بدلے میں اللہ آپ کے قلب کو پیار عطا کرے گا کہ میرے بندے نے میرا قانون **يَغْضُؤا مِنْ اَبْصَارِهِمْ** نہیں توڑا، اپنا دل توڑ دیا، ایسے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ پیار کرتا ہے کہ میری محبت میں اس نے دل توڑا، اپنی خوشیوں کا خون کیا اور مجھے خوش رکھا، مجھے خوش کرنے کے لیے اپنی خوشی کو ناخوشی میں کنورٹ (Convert) کیا تو پھر اللہ کو رحم آتا ہے کہ اسی

عالم میں کتنے لوگ عورتوں سے بد نظری کر کے حرام لذت اڑا رہے ہیں لیکن میرا یہ بندہ ایسا ہے جو اپنے سینے میں قلبِ شکستہ رکھتا ہے، ٹوٹا ہوا دل رکھتا ہے اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ دل توڑ دیا چونکہ ہر وقت بے پردگی اور عریانی عام ہے تو مسلسل اپنے دل کو توڑتا رہتا ہے، تو ایسے شکستہ قلوب کو جو خدا کی یاد میں تسلسل کے ساتھ ٹوٹتے رہتے ہیں مگر حرام لذت اپنے اندر نہیں آنے دیتے ان پر اللہ تعالیٰ کی تجلیاتِ قربِ الہیہ مسلسلہ، متواترہ، وافرہ، بازغہ عطا ہوتی ہیں، بازغہ کہتے ہیں بارہ بجے دن کے سورج کو یعنی ان کے قلب پر نہایت قوی تجلی نازل ہوتی ہے اور وافرہ کے معنی ہیں بہت زیادہ اور متواترہ یعنی مسلسل کیونکہ وہ ہر وقت، مسلسل غم اٹھاتے ہیں اور جب حالتِ غم میں نہیں ہوتے مثلاً مسجد میں بد نظری کا کوئی موقع نہیں ہوتا تب بھی ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ جب تک جیتا رہوں گا آپ کا بن کے جیتا رہوں گا اور خون آرزو پیتا رہوں گا، حرام آرزو کی تکمیل نہیں کروں گا تو اس ارادہ دائمہ اور مسلسلہ کی وجہ سے ان کے قلب پر تجلیاتِ قربِ الہیہ مسلسلہ، متواترہ، وافرہ اور بازغہ عطا ہوتی ہیں اور ان کا چہرہ ترجمانِ قلب ہوتا ہے، جس کے قلب میں مولیٰ ہوتا ہے اس کا چہرہ اور آنکھیں ترجمانِ مولیٰ ہوتی ہیں، اس کے چہرے پر آپ کو مولیٰ کی تجلیات نظر آئیں گی اور جن کے دل میں کوئی لونڈا یا کوئی لونڈیا ہوگی، کوئی معشوق یا معشوقہ ہوگی اس کے چہرے پر اس معشوق کے گراؤنڈ فلور کے جغرافیے ہوں گے، منحوسیت اور لعنت برس رہی ہوگی، ان کے چہروں پر پیشاب اور پاخانے کے مخارج یعنی سبیلین کے جغرافیے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے دل میں وہی تمنا ہے کہ کوئی معشوق یا کوئی معشوقہ ملے تو اس کے پیشاب پاخانے کے مقامات میں مرور اور عبور کر کے سرورِ حرام حاصل کریں اور بے غیرتی اور کمینے پن اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کر کے مجرمانہ زندگی گذاریں۔

باوفا، باحیا، باخدار ہو

آپ کسی بے وفا کو دوست بنانا پسند نہیں کرتے لہذا آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفانہ رہو، اللہ کی دی ہوئی روٹی کھاتے ہو تو اللہ کے وفادار رہو، اگر دس دن کھانا نہ ملے تو بتاؤ معشوق تلاش کرو گے یا روٹیاں مانگو گے؟ اسی لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ باوفا رہو، باحیا رہو اور باخدار ہو بس تین کام کر لو پھر دیکھو، دنیا میں تم ایک لیلیٰ کے چکر میں ہو وہ بھی عَلٰی مَعْرَضِ الْجُوْتَا ہے، پکڑے گئے تو جو تا پڑے گا اور تقویٰ سے رہو گے تو تمہارے جوتے اٹھائے جائیں گے، نافرمانی کرو گے تو سر پر جوتے پڑیں گے، عشقِ مولیٰ والوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں اور عشقِ لیلیٰ والوں کی کھوپڑی پر جوتے مارے جاتے ہیں۔

قدرتِ تقویٰ ہر ایک میں ہے

حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب تک جان ہے، ہمتِ تقویٰ ہے۔ اگر ہمتِ تقویٰ نہ ہو تو تقویٰ فرض نہیں رہے گا ورنہ ظلم ہو جائے گا، جب طاقتِ تقویٰ اور ہمتِ تقویٰ نہیں ہے پھر تقویٰ فرض کرنا ظلم ہے یا نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے تو معلوم ہوا کہ مرتے دم تک ہمتِ تقویٰ اور طاقتِ تقویٰ موجود ہے لیکن استعمالِ ہمتِ تقویٰ اور استعمالِ قدرتِ تقویٰ میں ہم مجرم ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

(سورۃ التغابن، آیت: ۱۶)

تم اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے اور استطاعت کا استعمال کرنے ہی میں ہم غفلت برتتے ہیں جبکہ اللہ والے ہمیشہ غمگین رہتے ہیں، روتے ہیں کہ معلوم نہیں ہم نے استطاعت کا حق ادا کیا یا نہیں؟ یعنی جتنی ہماری قدرت ہے

اتنا ہم نے استطاعت کا حق ادا کیا یا نہیں؟ جتنی ہماری نظر بچانے کی قدرت ہے اس قدرت کو ہم نے استعمال کیا یا نہیں یا ہم اس میں چورا اور خائن ہیں، اسی فکر و غم میں وہ مرتے رہتے ہیں، ساری زندگی گھلتے رہتے ہیں، اشک بار آنکھوں سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔

حکیم الامت نے ایک عجیب بات فرمائی کہ جو شخص کہے کہ مجھے طاقت نہیں رہتی، حسینوں کو دیکھ کے میں پاگل ہو جاتا ہوں، پرانی عادت راسخ ہو چکی ہے تو اس کا جواب حکیم الامت نے دیا کہ قدرت ہمیشہ ضدین سے متعلق ہوتی ہے یعنی جس کام کو کرنے کی قدرت ہوتی ہے آدمی اس کو نہ کرنے پر بھی قادر ہوتا ہے۔ جو آدمی ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ اسے نیچے بھی گرا سکتا ہے، جو حسینوں پر نظر ڈال سکتا ہے وہ ہٹا بھی سکتا ہے بشرطیکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ اگر پولیس کا سپرائنڈنٹ کہے کہ یہ میرا لڑکا یا میری لڑکی ہے، جو نظر باز یہ کہتا ہے کہ حسینوں کو دیکھ کر میں پاگل ہو جاتا ہوں وہ آج میری لڑکی کو دیکھ کر دکھائے اور ایک ہاتھ میں اس کے پستول بھی ہو تو وہاں اس کا نفس بڑا عقل مند بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا نظر بچانے کی طاقت ہے جہی تو پستول دیکھ کر پاگل نہیں ہوا۔ آہ! مخلوق کے خوف سے نظر نیچی کرنے والو! اس بڑی طاقت کا بھی دھیان پیدا کر لو جسے ہماری نظر کی بینائی چھیننے یا ہمارے گردے بیکار کرنے کے لیے کسی پستول کی بھی ضرورت نہیں۔

تو میں یہ بتا رہا تھا کہ صحبت شیخ میں اول تو یُرِيدُونَ وَجْهَهُ ضُرُورِي ہے کہ مخلص ہو اور گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرے اور دوسرے یہ کہ شیخ کی صحبت میں اس کے آداب کا خاص خیال رکھے۔ شیخ کے سامنے مٹ کر رہنا چاہئے، اس کی روک ٹوک اور ڈانٹ کو اپنی اصلاح کا ذریعہ اور شیخ کا پیار سمجھنا چاہئے، یہ نہیں کہ شیخ نے کسی بات پر ٹوک دیا یا پکڑ ہو گئی کہ یہ کام کیوں کیا تو اگر

مگر اور بحث بازی شروع کر دی۔ اس میں ایذائے شیخ ہے۔

شیخ کے مواخذہ پر اعترافِ قصور کی تعلیم

ایک صاحب سے مولانا شاہ ابرار الحق صاحب بہت ناراض تھے، کئی برس سے ان کی خط و کتابت چل رہی تھی، میں حیدرآباد دکن گیا تو حضرت نے ان کو تار دے کر بلوایا اور فرمایا کہ تم اپنے معاملات کے سارے خطوط دکھاؤ، انہوں نے شیخ سے بڑی اگر مگر لگا رکھی تھی کہ اس میں یہ بات ہے، اس میں یہ وجہ ہے اور آپ ذرا ذرا سی بات میں ناراض ہو جاتے ہیں تو حضرت نے لکھا کہ میں جتنا ناراض ہوتا ہوں اتنا ہی جلد راضی بھی ہو جاتا ہوں۔ شیخ نے ان کو میرے حوالے کر دیا کہ تم اس کو سمجھاؤ تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اگر مگر چھوٹ دو سیدھا سیدھا لکھ دو کہ میں اعترافِ قصور کرتا ہوں، اپنی تمام خطاؤں کی معافی چاہتا ہوں اور آئندہ ان شاء اللہ احتیاط کروں گا۔ یہ ایسے جملے ہیں کہ جس سے شیخ کو اذیت نہیں پہنچتی۔

بس کیا کہیں، بے وقوف انسان اس کو سمجھتا نہیں ہے، اسی سے شیخ کو تکرار ہوتا ہے اور اذیت پہنچتی ہے، مرید یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر مگر لگا کر دائرہ مواخذے سے نکل جاؤں گا مگر یہ اللہ کے راستے کا ادب نہیں ہے، فوراً اعتراف کر لو اگرچہ قصور نہ بھی ہو، جو مزہ رَبَّنَا ظَلَمْنَا فِيهِ وَهَذَا خَلْقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ میں نہیں ہے جیسا کہ شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ! مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے اور اس میں کبریٰ محذوف ہے، وہ کیا ہے کہ اَلنَّارُ اَفْضَلُ مِنَ الطِّينِ آگ افضل ہے مٹی سے، تو گویا آپ افضل کو فاضل کے سامنے سجدے کا حکم دے رہے ہیں، ابلیس اللہ میاں کو یہ مشورہ دے رہا ہے۔

آیت رَبَّنَا ظَلَمْنَا... الخ سے ادبِ اعترافِ قصور کی دلیل

اسی لئے کہتا ہوں کہ شیخ کے ساتھ اگر مگر اور بحث و مباحثہ عذرو تاویلات کا شیطانی راستہ اختیار نہ کرو بلکہ سیدھا سیدھا اعترافِ قصور کر لو۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ اعترافِ قصور آپ نے کہاں سے سیکھا تو سن لو کہ یہ تصوف بلا دلیل نہیں ہے رَبَّنَا ظَلَمْنَا نے یہ بتایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں بھول گیا تھا لیکن آپ نے اعترافِ قصور کر لیا۔

جب آدم علیہ السلام نے ممنوعہ درخت کو کھا لیا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ فَتَسْبِحُ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَهْوَلٍ كُنْتُمْ تَحْتِ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ان کے قلب میں خطا کے ارادے کا ایک ذرہ تک نہیں تھا، عَزْمًا نکرہ ہے اور لَمْ نَفِي ہے تو عَزْمًا نکرہ تحت النفی ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے إِنَّ التَّكْوِينَةَ إِذَا وَقَعَتْ تَحْتَ النَّفْيِ تُفِيدُ الْعُمُومَ یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کے دل میں ارادہٴ نافرمانی کا ایک اعشاریہ، ایک ذرہ بھی نہیں دیکھا، اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی عذر نہیں پیش کیا، یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ! میں بھول گیا تھا، جب شیطان نے آپ کا نام لیا اور قسم اٹھائی تو آپ کے نام سے میں اتنا مست ہو گیا تھا کہ آپ کا حکم بھول گیا، جبکہ حقیقت بھی یہی تھی کہ آپ بھول گئے تھے۔ شیطان ظالم نے قسم کھائی تھی کہ اے آدم! اللہ کی قسم اگر تم نے اس ممنوعہ درخت کو کھا لیا تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ حکیم الامت فرماتے تھے کہ اللہ کے نام سے آپ پر نشہ طاری ہو گیا تھا۔

نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا

ذکر میں تاشیر دورِ حجام ہے

غلبہٴ لذتِ اسمِ مبارک سے آپ کو نسیان ہو گیا تھا لیکن رَبَّنَا ظَلَمْنَا کا جو مزہ آپ نے لیا اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی مزہ نہیں کہ اے ہمارے پالنے

والے! ہم سے قصور ہو گیا۔

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کا مزہ عاشقوں سے پوچھو، رَبَّنَا کہتے ہی مزہ شروع ہو گیا کہ اے ہمارے پالنے والے! پھر ظَلَمْنَا کا مزہ الگ کہ ہم نے ظلم کیا اَنْفُسَنَا نے مزہ اور بڑھا دیا کہ آپ کا کچھ نقصان نہیں ہے ہم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا، تو ہر ہر لفظ کا مزہ الگ ہے۔

بعضے ظالموں کو یہی سکھاتا ہوں کہ اگر مگر مت لگایا کرو، اللہ کا راستہ عقل کا راستہ نہیں ہے، یہ فنائیت کا راستہ ہے، اپنے بڑوں کے سامنے بالکل مٹ جاؤ، یہ نہ سوچو کہ شیخ میری غلط گرفت کر رہا ہے، شیخ خطا پر ہے اور میں حق پر ہوں، بتاؤ! کسی کو میری اس تقریر پر کوئی اشکال ہے؟ بولو بھی! کیا قرآن پاک کا استدلال آپ کے لیے باعث تسلی نہیں ہے کہ فَنَسَىٰ وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عَزْمًا کے علم الہی کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام رَبَّنَا ظَلَمْنَا کہہ رہے ہیں، اگر ناقص عشق نہیں ہے، محبتِ کاملہ ہے تو اسی میں مزہ آتا ہے کہ مجھ سے قصور ہو گیا، خطا ہو گئی۔ آہ! کیا کہوں، کاش یہ عبدیت ہمارے قلوب میں اللہ داخل فرمادے کہ عذر موجود ہے اور اللہ کا فرمان بھی ہے پھر بھی اعترافِ قصور کر رہے ہیں۔ جب ری یونین میں میری یہ تقریر ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آج تو عجیب مزہ آیا۔

اعترافِ قصور شرافتِ بندگی کی دلیل ہے اور اگر مگر کمینہ پن اور خباثتِ طبع کی دلیل ہے، اس کے اندر شیطانی مادہ چھپا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے کو مٹائیں، اس لیے اگر مگر لگاتا ہے کہ یہ بات یوں نہیں تھی، ایسے ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا اور مجھے خیال نہ رہا، اس میں وہی شیطانی بات اور بے ادبی ہے

کہ اُبْرِيءُ نَفْسِيْ مِيْرَانْفَسِ بَرِيْ هے، آپ مجھ پر گرفت غلط کر رہے ہیں۔

بے ادبی کا سبب کبر ہے

اور بے ادبی کا سبب بہت چھپا ہوا کبر ہوتا ہے۔ جس کو خود یہ بھی نہیں سمجھتا، اس کو اپنی ہستی کا احساس ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ حضورِ شیخ میں اپنے کو کچھ سمجھنا بے وقوفی ہے، اس مخفی کبر کی دلیل کیا ہے؟ اس کو غور سے سن لو۔ شیطان نے جو کہا کہ آپ نے ہم کو آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور آگ افضل ہے مٹی سے، آگ کا مرکز اوپر ہے، زمین نیچے ہے تو ایک عالی سے آپ سافل کو سجدہ کر رہے ہیں، آبی وَ اسْتَكْبَرُوْا یہی دلیل ہے کہ اس کے اندر خفیہ کبر موجود تھا، یہ جو آبی ہے استکبر اس کا سبب ہے، ابی مسبب ہے، استکبار سبب ہے، آبی معلول ہے، استکبر اس کی علت ہے۔ اس لیے فنائے نفس کی اللہ سے دعا کرو۔ پھر دعا کرو کہ یا اللہ! ہم سب کو اتنا مٹا دے کہ ہم کو اپنے مٹنے کا احساس بھی نہ ہو، مقادیر فناء الفناء نصیب فرما اور اتنا مٹا دے جتنا مٹنا آپ کو پسند ہے۔ آہ! بتاؤ میر صاحب! کیسی پیاری دعا ہے کہ اے خدا! ہم سب کو اتنا مٹا دے جتنا مٹنے سے آپ خوش ہو جائیں اور عظمتِ شیخ کا حق ادا ہو جائے۔

غلاط کی تاویلات میں نقصان ہی نقصان ہے

بولو! عظمتِ شیخ اس میں ہے کہ میرا نفس بَرِيْ ہے، آپ غلط میرا مواخذہ کر رہے ہیں؟ یا اعترافِ تصور میں ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا آدمی اور ڈانٹ کھاتا ہے، بعض لوگ خانقاہوں سے نکال دیئے گئے مخلوق میں بھی ذلیل ہوئے اور شیخ کو جو دکھ پہنچا وہ الگ، مرید کے لیے وہ مستزاد عذاب ہے۔ بولو! شیخ کو ایذا پہنچانے والے سے بڑھ کر کوئی مجرم ہے؟ اس لیے میں

بہت ڈرتا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب میرے شیخ کو ایک آدمی پر غصہ آیا اور اسی وقت فالج کا ایک ہو گیا، ایسے مُوزی مریدوں سے اللہ بچائے جن کو سمجھانے کے باوجود بھی احساس نہیں ہے۔

میں نے بتا دیا کہ میں دل کا مریض ہوں، غصہ دل کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر تم نے شیخ کو غصہ دلایا اور اعترافِ قصور کی راہ اختیار نہ کی کہ مجھ سے خطا ہوگئی، معافی چاہتا ہوں، اگر مگر لگا یا اور اس کی تکلیف سے غصہ بڑھا اور اس کو فالج ہو گیا تو تم کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن؟ بولو بھی! یہ کوئی اچھا کام ہے؟ شیخ کو غصہ دلا کر، غصہ بڑھا کر اگر اس کو فالج میں مبتلا کر دیا تو آپ کا یہ فعل کیسا ہے؟ اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی حماقت سے توبہ کر لو، سب لوگوں کے فائدے کے لیے کہتا ہوں کہ اگر مگر لگا کر شیخ کو اذیت مت پہنچاؤ، خاص کر جو لوگ رات دن ساتھ رہتے ہیں، جب کبھی بھی شیخ گرفت کرے تو فوراً کہو کہ میں اعترافِ قصور کرتا ہوں، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، خطا ہوگئی معافی چاہتا ہوں۔ اگر اس کے بعد آپ کو عافیت نہ ملے تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا۔ بولے عافیت میں جانا چاہتے ہو یا مصیبت میں؟ ان دو جملوں سے کہ خطا ہوگئی، معافی چاہتا ہوں، ان شاء اللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، شیخ آرام اور صحت سے رہے گا، غصے سے اس کے قلب کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جس میں اس کی صحت کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ اگر تم شیخ سے محبت کرتے ہو تو شیخ کی صحت کو نقصان پہنچانے والی حرکتوں سے بچنا واجب ہے یا نہیں؟ اگر مگر لگانے سے اس کو تکدر ہوتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے، خاص کر جو شیخ دل کا مریض بھی ہو تو ایسے شیخ کو اذیت پہنچانا اور زیادہ حرام ہے یا نہیں؟ اور اللہ کے غضب کو خریدنا ہے یا نہیں؟ بہت فسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں بعض لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں مگر وہ پھر یہ سبق بھول جاتے ہیں اور اگر مگر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔

اس مضمون کو ایک بہت عمدہ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا کہ پانی میں گھس جاؤ مگر کپڑا نہ بھینکنے پائے، وہ پانی میں گھس گیا مگر کپڑا بھیک گیا، بادشاہ نے کہا کہ کپڑا کیوں بھیک گیا؟ کہا حضور خطا ہوگئی، معافی چاہتا ہوں۔ جن لوگوں پر عقل کا غلبہ ہے وہی شیخ کو دکھ پہنچاتے رہتے ہیں، غلبہ عقل سے کام مت لو غلبہ عشق سے کام لو، نا کردہ خطاؤں پر بھی یعنی اگر خطا نہیں بھی ہوئی تب بھی کہہ دو کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو امن کا راستہ چھوڑ کر خود بھی پریشان ہوتے ہو اور شیخ کو بھی پریشان کرتے ہو۔ راہ امن کیوں نہیں اختیار کرتے؟ دو جملے کہہ لو تاکہ آگے کوئی سوال و جواب ہی نہ ہو، اعتراف کر لو کہ مجھ سے خطا ہوگئی، معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔

میرے بیٹے مولانا مظہر جب کم عمر تھے، پڑھ رہے تھے تو کسی بات پر میں نے ان کی پٹائی کا ارادہ کیا تو وہ بھاگے نہیں، اور لڑکے ہوتے تو وہ بھاگ جاتے، اللہ تعالیٰ مولانا مظہر کے درجات کو بلند فرمائے، دل سے دعا نکلتی ہے، تو وہ بھاگے نہیں بلکہ میرے پاس بیٹھ گئے اور ٹوپی بھی اتار لی اور کہا کہ ابا مجھے جتنا چاہیں مار لیں، تو اس ادا سے میں خود رونے لگا۔

اس لیے اپنے دوستوں کو سکھاتا ہوں مگر پتا نہیں کیوں ان کے دماغ میں ادب کی یہ باتیں نہیں گھستیں، دماغی کمزوری ہے یا کیا ہے، بھول جاتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بیٹا اعترافِ قصور اور سزا کے لیے تیار ہوا تو باپ خود رونے لگا، غصہ ختم کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو بار بار کہتا ہوں کہ جب شیخ گرفت کرے تو چاہے تمہارے پاس لاکھ عذر ہوں مگر کچھ نہ بولو، بس یہ کہہ دو کہ حضرت مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے اعترافِ قصور ہے، میں نالائق ہوں، نادان ہوں، مجھ سے غلطی ہوگئی، معافی چاہتا ہوں، بس بات

ختم، معافی مانگنے سے بات کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گی، چاہے تمہارے دماغ میں کتنا ہی خناس آئے کہ اس وقت ہم قابلِ گرفت نہیں ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، یہ شیطانی مرض ہے۔ یہی سمجھ لو کہ جس مقام سے شیخ گرفت کر رہا ہے اس مقام کو ہم نہیں سمجھ پارہے، اگرچہ ہماری خطا چھوٹی سی ہے۔

شیخ کی نظر مرید کے تمام مصالِح دینیہ کو محیط ہوتی ہے

حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بعض وقت خطا چھوٹی سی ہوتی ہے مگر اس کا منشاء اور جڑ خطرناک ہوتی ہے، مثلاً اس میں کبر چھپا ہوتا ہے۔ بعض وقت میں شیخ بڑی خطا کو معاف کر دیتا ہے اور چھوٹی خطا پر سخت گرفت کرتا ہے کیونکہ اس کی نظر اصلاح مرید کے مصالِح دینیہ کا دور تک احاطہ کر رہی ہوتی ہے۔ لہذا دو جملے میں خود بھی آرام سے رہو اور شیخ کو بھی آرام سے رکھو۔ بولو بھئی! شیخ کو آرام سے رکھنا مطلوب ہے یا نہیں؟ خاص کر جو رات دن ساتھ رہیں۔ لہذا ان لوگوں کو دور رکھت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے اپنے شیخ کو اپنی حماقتوں سے ایذا رسانی کی۔

تو اگر مگر لگانے کے بجائے فوراً اعترافِ قصور کرو۔ یہ حکیم الامت کا ارشاد ہے کہ مجھے تاویلات کرنے والوں پر ہمیشہ غصہ آتا ہے، اگر وہ کہہ دیں کہ خطا ہوگئی، معافی چاہتا ہوں تو بات ختم، شیخ اس سے زیادہ کیا چاہے گا، شیخ خود چاہتا ہے کہ تم بھی آرام سے رہو اور میں بھی آرام سے رہوں، یہ قابلیت کا راستہ نہیں ہے، یہ عاشقی اور آہ وزاری اور نیاز مندی کا راستہ ہے، اپنی سبب قابلیت کو لات مار دو اور یہ کہو کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جاہلِ مطلق ہیں۔ ان تاویلات میں نفس کا بہت بڑا چور ہے، شیطان نہیں چاہتا کہ اپنے اوپر کوئی بار آئے، بارِ خطا جو نعمت تھی اس کو یہ بے وقوف حماقت سے نہیں سمجھا۔

خدمتِ شیخ کے لئے عقل و فہم کی ضرورت ہے

میں کہتا ہوں کہ عشق کے ساتھ تھوڑی سی دانائی بھی شامل کر لو، شیخ کی محبت میں جان دو مگر شیخ کو ستا ستا کے پاگل یا فالج میں مبتلا نہ کرو، شیخ کی خدمت دانائی کے ساتھ کرو، پاگلوں کی طرح سے محبت و خدمت مت کرو جیسے ایک ریچھ نے محبت کی تھی۔ ایک ریچھ اپنے مالک کو پنکھا ہنکا رہا تھا، اس نے ریچھ کو سکھا دیا تھا، ایک مکھی اس کے مالک پر بیٹھی تو اس نے ہانک دیا پھر بیٹھی پھر ہانک دیا جب تین چار دفعہ بیٹھی تو ریچھ ایک پتھر لے آیا اور اس مکھی کو زور سے مارا تو مالک کی ناک پھٹ گئی اور وہ مر گیا، تو نیت تو اس کی اچھی تھی۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری نیت تو آپ کو اذیت دینے کی نہیں تھی تو ریچھ والی محبت مت کرو، اللہ سے عقل و فہم مانگو، اللہ سے رورو کے یہ کہو کہ اے خدا! میرے شیخ کے بال بال کو میرے لیے دعا گو بنا اور ان کی آنکھیں مجھ سے ہمیشہ ٹھنڈی فرما، میری ذات سے ان کو ایک اعشاریہ بھی غم یا تکدر نہ پہنچے۔ یہ دعا بہت ضروری ہے، اگر اس دعا کی توفیق نہیں ہے تو وہ ظالم محروم القسمت ہے، شقاوتِ ازلیہ اس کے مقدر میں ہے۔

دو نعمتیں: (۱) اتباعِ سنت، (۲) رضائے شیخ

حکیم الامت کا ارشاد ہے کہ جس کو اتباعِ سنت اور رضائے شیخ نصیب ہو تو اس کے اندھیرے بھی اُجالے ہیں اور اگر اتباعِ سنت تو کرتا ہے مگر شیخ کو ناراض کیے ہوئے ہے تو شیخ کو ناراض کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی باپ کو ناراض کرے، تو جس طرح ماں باپ کو خوش کرنا ضروری ہے اسی طرح شیخ کی رضا بھی ضروری ہے اور جو شیخ کو ناراض رکھتا ہے تو یہ شخص بھی محروم رہے گا اور اس کے اُجالے بھی اندھیرے ہیں، اگر اس کو روشنی بھی نظر آتی ہے تو سمجھ لو سب دھوکہ ہے۔

شیخ دروازہ فیض ہے

اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات دل میں ڈالی کہ شیخ دروازہ رحمت اور دروازہ فیض ہے، مبدأ فیاض سے بندے تک وہ بیچ میں کٹ آؤٹ اور واسطہ ہوتا ہے اور ہر انسان اپنے دروازے کی صفائی کو محبوب رکھتا ہے اور دروازے کو گندار کھنا مشابہ یہودیت ہے، یہودی لوگ اپنے دروازے کو گندار رکھتے تھے۔ تو شیخ اللہ کا دروازہ ہے، لہذا دروازے کو صاف رکھنا، خوش رکھنا، تکرر نہ ہونے دینا، یہ مطلوب ہے یا نہیں؟ جس طرح انسان اپنے دروازے کی گندگی سے ناراض ہوتا ہے، غم محسوس کرتا ہے تو جو شیخ کو ستاتا ہے یا ناراض رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس دروازے کو ناراض کرنے والے کو اپنے فیض رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔

دریائے رحمت سے جو ٹوٹی تم کو مل رہی ہے اگر کوئی اس ٹوٹی میں نجاست لگا دے تو اس میں سے جو پانی آئے گا تم کو بدبودار لگے گا لیکن اس میں دریا کا قصور نہیں ہے، تم نے ٹوٹی میں نجاست کیوں لگائی لہذا شیخ کو مکدر مت کرو بلکہ گاہے گاہے اس کو خوش کرو، کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو تا کہ اس پر اللہ کی رحمتوں کی جو بارش برس رہی ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے اور ہم جو طرح طرح کی سزاؤں کے مستحق تھے تو ہم پر طرح طرح کی نعمتیں برس جائیں۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ کتنے ہی بڑے ہو جاؤ دو چیز جس کے اندر ہے اتباع سنت اور رضائے شیخ اس کے اندھیرے بھی اُجالے ہیں اور جس سے شیخ ناراض ہو یا سنت کی اتباع نہ ہو تو اس کے اُجالے بھی اندھیرے ہیں۔ یہ حکیم الامت کا ارشاد ہے۔ اس لیے سمجھتا ہوں کہ اپنی عاقبت مت خراب کرو،

ایک دفعہ سمجھ لو کہ فائدہ اعترافِ قصور میں ہے، فوراً کہو کہ مجھ سے خطا ہوئی، معافی چاہتا ہوں، اگر عذر بھی ہے تو وہ بھی اس وقت مت پیش کرو۔ جب بادشاہ حرص چاہتا ہے تو قناعت پر خاک ڈالو، جب شیخ تم سے اعترافِ قصور مانگتا ہے تو تم اپنی عقل پر خاک ڈالو۔

محبت میں بعض دوست ایسے ہیں کہ شاید روئے زمین پر ان سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہ ہو مگر وہ اپنی نادانی اور اپنے نفس کے وجود سے اور فنائے نفس کے نہ ہونے سے اگر مگر لگا کر اذیت پہنچانے میں بھی روئے زمین پر اوّل نمبر ہوتے ہیں، جہاں وہ محبت میں روئے زمین پر اوّل نمبر ہیں وہاں ایذا رسانی میں بھی اوّل نمبر ہوتے ہیں، ایسا شخص شیخ کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے اس نسخے کو یاد کرو اور دنیا اور آخرت برباد مت کرو، اگر تمہارے دل میں محبت ہے تو محبت کا حق ادا کرو، تم کیوں نہیں چاہتے کہ میرا محبوب خوش رہے، اس کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی رہیں، اس کا بال بال ہمارے لیے دعا گو رہے۔ بولو بھئی! محبت کیا چاہتی ہے؟ محبوب کو اذیت پہنچانا یا محبوب کو خوش رکھنا؟ تو اپنی عقل پر خاک ڈالو، جو محبوب چاہتا ہے اس طرح سے رہو۔

محبت نام ہی اس کا ہے کہ اپنی مرضی کو محبوب کی مرضی میں فنا کر دے، محبوب سے محبت اپنی مرضی سے کرنا یہ بدعت ہے اور محبوب سے محبت محبوب کی مرضی سے کرنا یہ سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق محبت کرنا سنت ہے اور مقبول ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے محبت کرنا یہ بدعت ہے اور مردود ہے۔ بتائیے! یہ بدعت کیسی تعریف ہے، ورنہ بدعتی نعوذ باللہ دشمن نہیں ہے، اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہو جائیں لیکن چونکہ بدعتی کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں ہے اس لئے

اس کی محبت غیر مقبول ہے، مردود ہے۔

عقل عقل سے نہیں فصل سے ملتی ہے

اور یاد رکھو! کہ محبوب کی مرضی کے مطابق محبوب سے محبت کرنا اور اپنی مرضی کو فنا کر کے اس کو خوش رکھنا اس مقام کو عقل سے نہیں پاسکو گے۔ یہ جملہ یاد رکھو کہ عقل سے عقل نہیں ملتی، فصل سے عقل ملتی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائیں گے تب سمجھ آئے گی کہ میں اب تک کس حماقت میں مبتلا تھا۔ اس لیے اللہ سے فضل مانگو کہ اے خدا! مجھے ایسا ادب سکھا دے کہ میرا شیخ مجھ سے خوش رہے۔ اللہ سے عقل مانگو، ادب مانگو اور شیخ کے دل میں اپنی محبوبیت مانگو کہ ہم تو نالائق ہیں مگر آپ میرے شیخ کے قلب میں مجھ کو پیارا بنا دیجئے، دنیا میں سب سے بڑا رشتہ شیخ کا ہے، کسی کے لاکھوں کروڑوں مرید ہوں، کروڑوں تصنیفات ہوں لیکن اگر شیخ کے دل میں وہ محبوب نہیں ہے تو خطرہ میں ہے، اس لیے شیخ کو ہر طرح سے خوش رکھو۔

حضرت میاں مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے خادم حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنکھا جھل رہے تھے، حضرت نے فرمایا کہ میاں تم مجھے بہت آہستہ آہستہ پنکھا جھل رہے ہو، کیا ہاتھ میں جان نہیں ہے؟ پھر انہوں نے اتنا زور سے جھلا کہ حضرت نے فرمایا: کیا اڑا دے گا مجھ کو؟ تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ کسی طرح چین نہیں ہے، ہکا پنکھا جھلتا ہوں تو آپ کہتے ہیں ہاتھ میں جان نہیں ہے، تیز جھلتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اڑا دے گا۔ حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ حضرت دونوں صورتوں میں معافی چاہتا ہوں، اب درمیانی رفتار سے جھلوں گا مگر وہی بات ہے کہ جب تک خدا عقل نہ دے یہ بات پیدا نہیں ہوتی۔ بعد میں انہوں نے اپنے قصور کی خوب تلافی کی اور شیخ نے بھی انہیں معاف فرما دیا اور بہت دین کا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا۔

اور دیکھو! اپنا شیخ تو کیا کسی بھی اللہ والے کا دل نہ دکھاؤ۔ اپنے شیخ کے علاوہ بھی جو لوگ اللہ والے صاحب نسبت ہیں میں نے کبھی ان کا دل بھی نہیں دکھایا اور اگر دل دکھانے کا ارادہ بھی نہیں ہے تب بھی اپنی بے وقوفی اور نادانی سے شیخ کو تکلیف مت پہنچاؤ، عقلِ سلیم کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ! مجھے عقلِ سلیم نصیب فرما اور میری عقل پر اپنے فضل کا سایہ نصیب فرما کہ میری وجہ سے میرے شیخ کو اذیت نہ پہنچے کیونکہ عقل سے اللہ کا راستہ نہیں طے ہوتا، فضل سے طے ہوتا ہے، سمجھ گئے! اور نہ عقل ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ شیخ کے دل کو مکر کر دیتے ہیں۔ لہذا فضل کی ضرورت ہے۔

کام بنتا ہے فضل سے اختر
فضل کا آسرا لگائے ہیں

اس لیے اللہ سے شیخ کے تکرر سے پناہ مانگتے رہو۔

حکیم الامت نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کڑوی دوا پلانا چاہ رہے تھے اور آپ انکار کر رہے تھے مگر جب آپ کو تھوڑی سی غشی آئی تو دوا پلا دی، بعد میں جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ جس جس نے مجھے کڑوی دوا پلائی تھی اس کو یہ کڑوی دوا پلا دو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اندیشہ عذاب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اخلاص سے بھی اذیت مت پہنچاؤ، یہ بہت نازک مسئلہ ہے، سوائے اللہ سے پناہ مانگنے کے اور کوئی چارہ نہیں، اللہ ہم سب سے ہمارے بزرگوں کو خوش رکھے اور ان کے بال بال کو دعا گور رکھے اور ان کے تکرر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔

اصلی عاشق شیخ

میں جب اپنے شیخ کو خط لکھتا ہوں تو تین دفعہ **يَا سُبُوْحُ يَا قُدُّوْسُ**
يَا غَفُوْرُ يَا وُدُوْدُ پڑھ کے پھونک مارتا ہوں کہ میرے کسی لفظ سے میرے شیخ کو

ایک اعشاریہ بھی تکدر نہ ہو۔ اصلی عاشق وہ ہے جو اس دعائیں مر رہا ہو کہ یا اللہ! مجھ سے کوئی ایسی حرکت و سکون یا کوئی ایسا قول و فعل نہ ہو جس سے میرے شیخ کو ایک اعشاریہ، ایک ذرہ بھی تکدر ہو، یہ اصلی عاشق ہے، پیر دبانے اور دوپلانے کا نام عشق نہیں ہے، ناراضگی سے بچنے والا زیادہ اعلیٰ درجے کا دوست ہے، جس طرح گناہ سے بچنے والا اللہ کا زیادہ بڑا ولی ہے، ایسے ہی شیخ کو اذیت نہ پہنچانے والا شیخ کا زیادہ دوست ہے۔

يَا سُبُّوحُ يَا قُدُّوسُ يَا غَفُورُ يَا وَدُودُ پڑھ کے دعا کرو کہ اے اللہ! اپنے ان اسماء کی برکت سے میرے شیخ کے دل میں مجھ کو پیارا بنا دے، اگر بیوی پڑھے گی تو شوہر کی نظر میں پیاری بنے گی اور شوہر پڑھے گا تو بیوی کی نظر میں پیارا بن جائے گا، امام پڑھے گا تو کمیٹی کی نظر میں پیارا ہو جائے گا اور کمیٹی پڑھے گی تو امام تختہ نہیں اُلٹے گا، یا سُبُّوحُ يَا قُدُّوسُ يَا غَفُورُ يَا وَدُودُ یہ عجیب نام ہیں، ورنہ سب کچھ ہونے کے باوجود بعض وقت آدمی نگاہ میں کھٹکتا رہتا ہے۔

پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے

بعض وقت بے ہنر، ناک کی چپٹی بیوی کو شوہر پیارا کرتا ہے اور دوسری طرف نہایت حسین بیوی کی پٹائی ہوتی ہے، میرے پاس ایسے کتنے واقعات آئے کہ بیوی نہایت حسین ہے مگر بیچاری ہر وقت مار کھا رہی ہے اور اس کے مقابلے میں کالی کلوٹی چپٹی ناک والی کو اس کے شوہر کا پیار مل رہا ہے، تو اپنی قابلیت کو مت دیکھو کہ میں تو شیخ کو اتنا آرام پہنچاتا ہوں اور شیخ بلا وجہ مجھ سے ناراض ہے، یہ دیکھو کہ۔

پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے

حکیم الامت کا جملہ یاد رکھو کہ جس کو دو چیزیں یعنی اتباع سنت اور شیخ کی رضا حاصل ہو پھر اس کے اندھیرے بھی اُجالے ہیں۔ اور جو ہر وقت شیخ کے

ساتھ رہنے والے ہیں ان پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ میری ذات سے شیخ کو کوئی اذیت نہ پہنچے۔ جو جو میس گھنٹہ شیخ کے ساتھ رہتا ہے اس کی رفاقت میں حَسَن بہت ضروری ہے وَحَسَنٌ أَوْلِيكَ رَفِيْقًا میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حَسَن کیوں نازل فرمایا؟ اس لئے کہ ساتھ تو رہو مگر رفاقت حسین ہو۔ اس لئے ایک ایک لفظ کو پہلے سوچو پھر بولو، زیادہ بات بھی نہ کرو کہ بعض وقت احمقانہ الفاظ سے شیخ کو اذیت پہنچے گی۔

کوئی کتنا ہی بے قوف ہو اگر وہ اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں نور ڈال دے گا، اللہ کا فضل عقل کے ساتھ جب مل جائے گا تو اس کی عقل میں اُجالا آجائے گا اور وہ ہمیشہ اچھا کام کرے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ بعض وقت بے وقوفوں نے اللہ کو راضی کر لیا اور عقلمندوں سے نالائقیوں ہو گئیں۔ بے قوف نے اپنی نادانی کے باوجود اپنی چھوٹی سی عقل سے اللہ کو اللہ سے مانگ لیا اور عقلمند نے ناز کیا کہ میں تو بہت ہی قابل ہوں اور اس نے نہیں مانگا تو عقل والوں سے ایسی نالائقیوں صادر ہوئیں جس کی حد نہیں۔

موذی مسرید

حکیم الامت کا ایک مرید تھا، اتنا قابل تھا کہ جب حضرت والا اردو میں بیان کرتے تھے تو وہ عربی میں لکھتا تھا مگر اس ظالم کو اپنی ذہانت پر تکبر ہو گیا، اپنی عقل پر اللہ کے فضل کو نہیں مانگا، نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت والا کے مسلک کے خلاف ہو گیا اور خانقاہ میں بیٹھ کر مقابلے شروع کر دیئے، حضرت نے فرمایا کہ اگر تم کو مخالفت کرنی ہی ہے تو تم یہاں سے چلے جاؤ لیکن وہ نہ گیا، اس کو اپنی عقل پر اتنا ناز ہوا کہ میں حق پر ہوں، شیخ اس مسئلے میں غلطی پر ہیں، شیخ سے بحث شروع کر دی، پھر حکیم الامت کو بدتمیزی کے خط لکھنے شروع کر دیئے حالانکہ حضرت سے خلافت بھی پا گیا تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فر کو جو

القاب لکھتے تھے اَلسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰى حَكِيم الامت کو وہ القاب لکھنے شروع کر دیئے، اسلامی سلام بھی نہیں لکھتا تھا کافروں والاسلام لکھتا تھا، حضرت حکیم الامت کا رسالہ ہے ”موذی مرید“، میں نے خود اس میں یہ سب پڑھا، حضرت نے رسالہ کا نام ہی ”موذی مرید“ رکھ دیا۔

اس لیے کہتا ہوں خدا کے لیے موذی مت بنو، آرام نہ پہنچاؤ تو اذیت بھی نہ پہنچاؤ اور اپنی عقل پر اللہ کے فضل کو ہمیشہ مانگتے رہو، اللہ رحم الراحمین ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ! میری عقل کے ساتھ اپنا فضل شامل حال فرما دے تاکہ میرے شیخ کا بال بال میرے لیے دعا گو رہے اور اللہ اس کی دعا قبول نہ فرمائیں۔

حضرت والا کی ایک خاص دعا

میں مسجد میں ہوں اور قسم بھی اٹھا سکتا ہوں کہ میں یہی دعا کرتا ہوں یا اللہ! میرے شیخ کے بال بال کو میرے لیے دعا گو بنا دے اور ان کے قلب میں اختر کو پیارا بنا دے۔ کیا کہوں، آج راز کی بات ظاہر کیے دیتا ہوں کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں: جتنے حضرت کے مرید ہیں اللہ مجھے سب سے زیادہ پیارا بنا دے، اَحَبُّ الْمُرِيْدِيْنَ بنا دے، اَحَبُّ الْمُسْتَوْشِدِيْنَ بنا دے، اَحَبُّ الْخُدَّاهِ بنا دے۔ ہماری عقل پر یا اللہ! اپنا فضل شامل فرما دے تاکہ ہم اپنے بڑوں کو ہمیشہ خوش رکھیں۔

اے خدا! جو توفیق ادب

اے اللہ! اختر کو میرے احباب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور میرے احباب کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بے ادبی، بے وقوفی اور نالائقی سے حفاظت عطا فرما اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ یا اللہ! اپنے بڑوں کے سامنے اعترافِ قصور اور اعترافِ خطا اور فوراً معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے اور

اگر مگر کی تاویلات سے حفاظت فرما اور ہم کو اور ہمارے احباب کو ایک سو بیس سال کی عمر دے دے اور خوب خوب سارے عالم میں دین کی محنت اور خدمت اور اپنی محبت کے نشر کے لیے ہم سب کو گروہ عاشقان نصیب فرما اور سارے عالم میں پھر اداے اور فضل فرما دے۔ یا اللہ جتنے دشمن ہیں سب کو ان ظالموں کے ظلم سے نجات مقدر فرما دے۔

رموزِ احکامِ الہیہ کے درپے نہ ہوں

کیا کہوں، حاسدوں سے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا کی اس آیت سے تسلی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیا مگر یہ جَعَلْنَا میں جو جعل ہے اس سے یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ جب ان دشمنوں کو اللہ ہی نے دشمن بنایا ہے تو ان کا کیا قصور ہے؟ تو حکیم الامت نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جعل تشریحی نہیں ہے تکوینی ہے، جیسا کہ اللہ نے سور پیدا کیا وہ پاخانہ کھاتا ہے تو بہت سے تکوینی راز ہیں جن کا سمجھنا ہم پر فرض نہیں ہے، بس ایمان لانا کافی اور ضروری ہے، آخرت میں سب راز منکشف ہو جائیں گے اور پھر ہم کو راز سے کیا مطلب، رُموزِ مملکت کو مالک جانے، اپنی مملکت اور سلطنت کے راز کو بادشاہ جانے، ہمیں تو اپنا انعام لینا ہے، سمو سے پا پڑ کھاؤ، کہاں کی تفتیش کر رہے ہو بس زیادہ رُموز کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرو۔

دین کا کوئی مسئلہ یا بزرگوں کی کوئی بات سمجھ نہ آنے پر

کیا کرنا چاہتے؟

حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب کوئی بات یا دین کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو میں نہ جاننے والی تھیلی میں اس کو ڈال دیتا ہوں اور بے فکر رہتا ہوں ورنہ

ہر وقت کھٹک رہے کہ بھی اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا راز ہے، تو بجائے اللہ کو یاد کرنے کے دل انہی چیزوں میں لگا رہے گا۔

اور فرمایا کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سمجھو کہ اور بھی تو کتنی باتیں ہیں جن کو ہم نہیں سمجھتے، ایک یہ بھی سہی، تو نہ سمجھنے والی تھیلی میں اس کو ڈال دو۔ ایسے ہی فرمایا کہ جب ہمیں اپنے بڑوں کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہاں بھی میں یہی کہتا ہوں کہ میرا شیخ جس مقام پر ہے، اللہ سے وہ جو بات سمجھ رہا ہے ہم بہت پیچھے ہیں، ہماری نظر وہاں تک نہیں جا رہی ہے۔ بس ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو میرا شیخ کر رہا ہے سب ٹھیک ہے، ہم خطا پر ہیں، میرا شیخ صواب پر ہے اور یہی راستہ ہے جس پر چلنے سے آپ صاحب عطا رہیں گے اور اگر بڑوں کے کیڑے سوچو گے کہ یہاں شیخ چوک گیا، وہاں شیخ چوک گیا، تو پھر سمجھ لو کہ محروم رہو گے۔ بس یہی کہو کہ شیخ جس مقام پر ہیں ہم اس مقام پر نہیں ہیں، وہ جہاں ہے اسے زیادہ نظر آ رہا ہے۔

شیخ کی کوئی بشری خطا نظر آئے تو کیا کرنا چاہئے؟

اور ایک بات بڑے کام کی ذہن میں آئی جس سے بہت رہنمائی ہوئی، کاش کہ یہ مضمون میرے سارے مریدوں کو پہنچ جائے کہ شیخ سے اگر کبھی کوئی بشری خطا ہو جائے تو فوراً اپنے دل کو سمجھا دو یا آپ سے کوئی کہے کہ آپ کے شیخ میں یہ کمزوری ہے تو یہ کہہ دو کہ وہ بھی انسان ہے، نبی تو نہیں ہے، میں نے شیخ کو نبی نہیں مانا، شیخ کو ولی ماننا ہوں اور ولی سے خطا ہو سکتی ہے مگر اس کی توبہ بھی اسی مقام سے ہوگی یعنی مقام ولایت سے، عوام کی توبہ سے اللہ والوں کی توبہ عظیم ہوتی ہے، جس قدر اشلباری اور درودِ دل سے وہ معافی مانگتے ہیں عوام کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔

شیخ کی برائی کرنے والے کا علاج

یہ بات مجھے مولانا شبیر علی صاحب جو حضرت تھانویؒ کے سگے بھتیجے تھے اور حضرت تھانوی کو بڑے ابا کہتے تھے انہوں نے بتائی کہ بعض لوگوں نے حکیم الامت کے خلاف مجھے کہا کہ تمہارے حضرت ایسے ہیں، ویسے ہیں تو میں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے بڑے ابا کو نبی نہیں مانا ہے، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے لیکن سمجھ لو کہ ان کی نیکیاں کتنی ہیں، کروڑوں نیکیاں ہیں، سینکڑوں تصانیف ہیں، رات دن اللہ کی محبت سکھا رہے ہیں لہذا اگر کبھی ان سے صدورِ خطا ہو گیا تو اتنا یقین ہے کہ صدورِ خطا کے بعد اللہ والوں کو توفیق تو بہ بھی زبردست نصیب ہوتی ہے بوجہ ان کی مقبولیت کے، جیسے اپنے پیارے بچوں کو ماں باپ نہلا ڈھلا کر صاف کر لیتے ہیں تو اللہ والے اللہ تعالیٰ سے یتیم نہیں ہیں، مولیٰ سے ان کا تعلق ہے لہذا مولیٰ ان کو توفیق تو بہ دے کر پھر پیار کے قابل بنا لیتے ہیں۔ مجھے ان کا یہ جملہ بہت پسند آیا۔ بعضے لوگ میرے شیخ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑے کڑک ہیں، بہت ڈانٹتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہم نے ان کو نبی نہیں مانا ہے، پیر بنانے کے لیے خالی ولایت کافی ہے، نبوت کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہیے! کیسا مزیدار مضمون ہے یہ۔

لہذا اگر تمہارے شیخ کی کوئی شکایت کرے یا مذاق اڑائے تو اوّل تو

اس کے پاس بیٹھو مت:

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا

فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ

بَعْدَ الدِّكْرِ ۚ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝﴾

(سورۃ الانعام، آیت: ۶۸)

وہاں سے اٹھ جاؤ کہ میرے سامنے میرے پیر کی برائی کرتے ہو، آئندہ تم سے

کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، وہاں سے اُٹھ جانا واجب ہے، حضرت حکیم الامت نے اس آیت کی یہی تفسیر لکھی ہے۔ بس وہاں سے اُٹھ جاؤ کہ میرے سامنے میرے باپ کی شکایت کرتے ہو، شیخ ہمارا روحانی باپ ہے۔ ہمارے لئے اس کی ولایت کافی ہے اور ولی سے صدورِ خطا ممکن ہے مگر توفیقِ توبہ اس کے لیے لازم ہے، جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ اس کو توفیقِ توبہ ضرور دیتا ہے، اپنے پیاروں کو کوئی شخص گنڈا نہیں رکھنا چاہتا۔ کسی کا بچہ کٹر میں گر جائے تو وہ اسے نہلا دھلا کر صاف کرتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ بھی اپنے پیاروں کو توفیقِ توبہ دیتا ہے۔ میں نے اپنے شیخ کو نبی نہیں مانا کہ وہ معصوم ہیں اور ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، خطا ہو سکتی ہے لیکن تمہاری اگر سودِ فحشاء ہو وہاں جاؤ ورنہ تم کو جہاں مناسبت ہو وہاں چلے جاؤ، اگر تمہارا بلڈ گروپ نہیں ملتا تو تم کیوں آتے ہو میرے شیخ کے پاس؟ تم دوسری جگہ جاؤ، دوسرا شیخ تلاش کرو، خبردار! جو میرے شیخ کے پاس آئے، جہاں تمہارا بلڈ گروپ ملتا ہو وہاں چلے جاؤ، ہم تمہاری ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتے، ہمارا ذوق تو یہ ہے کہ

شمس و قمر کی روشنی دہر میں ہے ہوا کرے

مجھ کو تو تم پسند ہو اپنی نظر کو کیا کروں

بس مجھ کو تو میرا پیر پسند ہے۔

قرآنِ صاحب ہمارے دوست ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ مولانا ابرار الحق صاحب کو غصہ اور جلال بہت آتا ہے، بڑے کٹر پیر ہیں، انہوں نے کہا اگر وہ کٹر پیر ہیں تو میرے نفس کا گھوڑا بھی تو اڑیل ہے، اڑیل گھوڑے کے لیے کٹر پیر سوار چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے، میں تو اپنے شیخ مولانا ابرار الحق صاحب کو صاحبِ کرامت سمجھتا ہوں کہ ان کی کرامت سے آج ہم کو یہ عزت حاصل ہے اور حضرت بچپن سے متقی ہیں، بعض لوگ تو بعد میں توبہ کر کے متقی ہوتے ہیں مگر

حضرت بچپن ہی سے متقی ہیں۔

ایک دن حضرت اپنے وعظ میں ایک جملہ کہہ گئے کہ بعض علماء ایسے ہیں جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، حضرت نے اپنی طرف تو اشارہ نہیں فرمایا لیکن میں سمجھ گیا کہ آج حضرت اپنا راز ظاہر فرما رہے ہیں۔ تو جو متقی ہوتا ہے اسی سے کرامت صادر ہوتی ہے۔ اس کی دلیل سنئے إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ متقی اکرم ہوتا ہے اور اکرم ہی سے کرامت نکلتی ہے۔ تو میں اپنے شیخ کو صاحب کرامت سمجھتا ہوں، یہ ان کی کرامت ہی ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء جو بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، ایک بخاری شریف نہ پڑھانے والے کی بات نوٹ کر رہے ہیں اور جب میں کوئی حدیث کی شرح بیان کرتا ہوں تو محدثین کہتے ہیں کہ آج زندگی میں پہلی دفعہ یہ سن رہے ہیں۔

جس کو اپنے شیخ سے محبت ہو اور اس کی عظمت نہ ہو وہ کیا مرید ہے، وہ نابینا ہے، اس کی آنکھوں میں موتیا ہے، اپنے شیخ کو سارے عالم کے مشائخ سے افضل سمجھو باعتبار افادیت کے کہ میرے لئے میرے حضرت سے بڑا کوئی پیر نہیں۔ یہ حکیم الامت کا جملہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعی مجدد ہیں۔

معرضانہ مزاج والوں کے لئے ہدایت

بعض لوگوں کی عقل اتنی تیز ہوتی ہے، وہ اتنے ذہین ہوتے ہیں اور ان میں اعتراضات کا اتنا مادہ ہوتا ہے کہ ان کو بزرگوں کی بات پر اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ تو فرض کر لو ان کو دنیا میں کسی شیخ سے مناسبت نہیں ہوتی، ہر شخص میں ان کو کیڑا نظر آتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ ایسے لوگ کسی شیخ کے پاس جا کر نہ رہیں، خط و کتابت سے اصلاح کرائیں کیونکہ قریب رہیں گے تو اعتراضات میں مبتلا رہیں گے اور بدگمانی کی

وجہ سے شیخ کے فیض سے محروم رہیں گے اور اگر خط و کتابت کے ذریعہ ہی اصلاح کرانے لگیں تو ان شاء اللہ محروم نہیں رہیں گے مگر یہ شاذ و نادر کا مسئلہ ہے، دنیا میں شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو جس کی یہ حالت ہو، بہر حال یہ حکیم الامت کی شان ہے کہ ایسے مسئلہ کو بھی حل فرما دیا لیکن میں پناہ چاہتا ہوں ایسے مزاج سے کہ جس کو کسی شیخ سے مناسبت نہ ہو، اگر مزاج عاشقانہ ہے تو ان شاء اللہ سب کام آسان ہو جائے گا۔ اور حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اعتراض دو وجہ سے ہوتا ہے نمبر ۱: یا تو جاہل ہے، نمبر ۲: یا قلت عشق ہے، قلت محبت ہے۔

اپنی ناراضگی کو مرید پر ظاہر نہ کرنا شیخ پر حرام ہے

تو شیخ کے معاملے میں ایک جملہ سیکھ لو، جب خطا ہو اور شیخ گرفت کر لے تو فوراً کہو کہ معافی چاہتا ہوں۔ بولو یہ کام آسان ہے یا نہیں؟ یا یہ پرچہ مشکل ہے۔ (احقر رقم الحروف نے عرض کیا کہ بعض وقت احساس نہیں ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ شیخ ہم سے خوش ہیں حالانکہ شیخ کا قلب مکرر ہوتا ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ اور بعض وقت شیخ کے معاف کر دینے کے بعد بھی شیطان بہکاتا ہے کہ شیخ نے دل سے معاف نہیں کیا۔ اس پر حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ) یہ بدگمانی کرنا کہ شیخ ناراض ہے، حرام ہے جب تک کہ وہ مرید پر ظاہر نہ کر دے کہ تم سے یہ خطا ہوئی اور میں تم سے ناراض ہوں، یہ شیخ کی ذمہ داری ہے، دل میں ناراضگی رکھنا اور مرید کو آگاہ نہ کرنا، یہ فعل شیخ کے لیے حرام ہے۔

شیخ سے بدگمانی حماقت ہے

(اس پر احقر نے عرض کیا کہ حضرت اس وقت اس کا احساس ہو رہا ہے کہ شیخ مجھ سے ناراض ہیں، حضرت میں معافی چاہتا ہوں مجھے اپنی خطا یاد نہیں آئی، اب سوچتا ہوں کہ مجھ سے کیسی غلطی ہوئی۔ اس پر حضرت والا نے

ارشاد فرمایا کہ) یہی آپ کی حماقت ہے، شیخ تو کلیات بیان کر رہا ہے کہ جب کبھی خطا ہو تو اس کا اعتراف کر لو بس۔ میں تو مستقبل کے لیے ایک لائحہ عمل پیش کر رہا ہوں اور تم ماضی کی خطاؤں کو یاد کر رہے ہو، اللہ سے اپنی عقل پر فضل مانگو، جب شیخ مستقبل کا راستہ بتا رہا ہو تو ماضی کی باتوں کو یاد کرنا یہ بھی حماقت ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب شیخ نے خطا معاف کر دی تو پھر اس کا

خیال بھی لانا قبر سے مردوں کو اُکھاڑنا ہے۔ آپ بتاؤ! مردہ کو دفن کرنے کے بعد اس کا اُکھاڑنا جائز ہے؟ حضرت نے یہ مجھ سے خود فرمایا کہ جب شیخ نے ایک دفعہ معاف کر دیا تو بعد میں جب کبھی شیخ کوئی بات بتائے گا تو سمجھ لو کہ وہ مستقبل کا لائحہ عمل بتا رہا ہے کہ آئندہ مت ستاؤ، آئندہ اپنی عاقبت مت خراب کرو، شیخ مستقبل کے لیے کہتا ہے تاکہ تم پکا ارادہ کر لو اور سوچو کہ شیخ ازراہ شفقت چاہتا ہے کہ مستقبل میں ہم سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو، شیخ مستقبل کے تحفظ کا راستہ بتا رہا ہے اور مرید بے وقوف ماضی کی باتیں سوچ رہا ہے کہ ہم سے کوئی خطا ہوگئی، کیا ہم سے کوئی ناراضگی ہے، یہ بدگمانی حرام ہے، اس سے توبہ کرو۔

ایک صاحب نے میرے شیخ کو لکھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ حضرت نے لکھا کہ یہ بدگمانی حرام ہے، اگر شیخ ناراض ہوگا تو اسے مرید کو تحریراً یا تقریراً بتانا لازم ہے کہ دیکھو تمہاری اس خطا سے ہم کو تکلیف ہوئی، دل میں تکلیف یا ناراضگی رکھنا شیخ کے لیے حرام ہے، ہاں دشمنوں کے لیے کر سکتا ہے لیکن مرید تو دوست ہوتا ہے، وہ دوستوں سے اپنے غم کو چھپائے گا؟ فوراً کہہ دے گا کہ آج اس بات سے یہ بات ہوئی، مستقبل کے لائحہ عمل کو ماضی کی طرف لے جانا یہ بھی عقل کا فتور ہے اور عقل کی کمی ہے۔

دیکھو شیطان نے کیسا بے وقوف بنایا کہ یہ ماضی کی باتیں سوچ رہے ہیں کہ شاید شیخ ناراض ہے، اگر میں ناراض ہوتا تو تم پر ظاہر کرنا میرا فرض تھا بلکہ

بعض وقت میں شیخ پر یہ بھی فرض ہے کہ اگر مرید نہ سمجھ پارہا ہو تو اس کو بتادے کہ اس سے یہ خطا ہوئی تاکہ وہ جلدی سے معافی مانگ لے اور اس کا بھی معاملہ بن جائے اور شیخ کا بھی دل صاف ہو جائے۔ اگر میں ناراض ہوتا تو آپ کو فوراً حکم دیتا کہ آپ معافی مانگو لہذا یہ سوچنا کہ شیخ کے دل میں میرے لیے ناراضگی ہے لیکن وہ مجھے بتائیں رہا ہے یہ بدگمانی بھی حرام ہے اس سے بھی توبہ کرو، وہ شیخ ہی نہیں ہے جو اپنی روحانی اولاد سے دل میں رنج رکھے اور ظاہر نہ کرے، یہ کوئی شیخ ہے؟ یہ بھی محبت کے خلاف ہے۔

شیخ پر شانِ رحمت کا غلبہ ہونا چاہئے

اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے اور حضرت آدم علیہ السلام کو رَبَّنَا ظَلَمْنَا نہ سکھاتے تو حق تعالیٰ کی رحمت کے خلاف ہوتا کہ نہیں؟ تو ارحم الراحمین کی شان دیکھئے فَتَلَقَىٰ اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات لیے اور اللہ نے انہیں رَبَّنَا ظَلَمْنَا سکھایا، تو جس طرح اللہ ارحم الراحمین ہے شیخ پر بھی شانِ رحمت کا غلبہ ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری اور فرض ہے کہ اگر کوئی بات اس کو کھٹکے تو مرید پر ظاہر کر دے اور اس کو معافی کے لیے مشورہ دے۔ پوچھو میر صاحب سے، جب کبھی ان سے غلطی ہوئی میں نے فوراً ان سے کہا کہ جلدی سے معافی نامہ لکھو تاکہ دل کو صاف کر لیا جائے۔

میں نے تو مستقبل کے لیے اللہ کی ناراضگی اور اپنی تکلیف سے مرید کو بچانے کے لیے اور مرید کو خوش نصیب بنانے کے لیے ایک خاکہ پیش کیا ہے تو اس سے خوش ہونا چاہیے کہ شیخ مجھے مستقبل کے لیے ایک راستہ بتا رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اسے ایک خاکہ سمجھے وہ شیخ کی ساری تقریر میں اپنے ماضی کے مردوں کو ہی سوچ رہا ہے کہ چل کر قبرستان کے مردے اکھاڑنے ہیں، جب

شیخ معاف کر دے تو ماضی کے گناہ کو یاد کرنا بھی حرام ہے۔

میں نے ایک دفعہ اپنے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت دو مہینے پہلے ایک خطا ہو گئی تھی، میں نے معافی تو مانگ لی تھی مگر پھر وسوسہ آ رہا ہے کہ معافی مانگنی چاہئے، لہذا پھر معاف کر دیجئے۔ فرمایا کہ دیکھو جب مردہ دفن کر دیا جاتا ہے پھر اس کو اکھاڑا نہیں جاتا۔ ایک دفعہ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی لکھا تھا کہ مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں تو حضرت نے یہ نہیں لکھا کہ تم مجھ سے بدگمانی کرتے ہو بلکہ یہ لکھا کہ میں آپ سے بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔

شیخ سے بدگمانی شیطانی چال ہے

تو ازراہ شفقت ایک لائحہ عمل پیش کر رہا ہوں تاکہ میرے احباب مستقبل میں کبھی تکلیف اور ایذا رسانی کا سبب نہ بنیں مگر شیطان دشمن نے ماضی میں لگا دیا، ہم مستقبل پیش کر رہے ہیں شیطان ان کو ماضی میں لگا رہا ہے، کتنا خبیث ہے، کتنا چالاک ہے، کتنا خطرناک ہے کہ شیخ لائحہ عمل مستقبل کا پیش کر رہا ہے اور شیطان ماضی کے مردوں کو جگا رہا ہے کہ کوئی خطا ہے جو شیخ ہم سے ناراض ہے۔ بدگمانی پیدا کرنا شیطان کا کام ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے ابلیس کے شر سے پناہ مانگو۔

(مولانا یونس پٹیل صاحب نے عرض کیا کہ میر صاحب کی وجہ سے ہمیں کتنے قیمتی سبق ملے تو فرمایا کہ) یہی تو کہہ رہا ہوں کہ شیطان بعض وقت بے موقع وسوسہ ڈالتا ہے حالانکہ شیخ بالکل خوش ہے، اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔ میں میر صاحب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جیسے یہاں ساتھ ہیں جنت میں بھی ان کو میرے ساتھ رکھئے، اگرچہ ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن آپ کا

کرم ہماری قابلیتوں سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ اختر کو اور میرے سارے احبابِ عالم کو، حاضرین و غائبین کو اور میری ذُرِّیات کو جنت میں بھی اپنی رحمت اور اپنے کرم سے اکٹھا رکھے تو یہ دعا مانگنا شفقت نہیں ہے؟

یاد رکھو! شیخ چاہتا ہے کہ میرے احباب سے مستقبل میں بھی کوئی خطا نہ ہو، اس کے لیے کچھ اصول و ہدایات کرتا رہتا ہے، اس سے یہ نہ سمجھو کہ ماضی کی باعثِ اذیت خطائیں ان کے دل میں ہیں، یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے کہ شیخ سے بدگمان کرتا ہے کہ شیخ ہم سے ناراض ہے، جب کبھی ایسا وسوسہ آئے شیطان سے کہہ دو کہ شیخ مجھ سے بہت خوش ہے، اگر ناراض ہوتا تو اس کا اظہار کرنا اس پر واجب ہے، ہمارا شیخ ایسا بے وقوف نہیں ہے، شیخ ہم سے کہہ دیتا کہ ہم تم سے فلاں بات پر ناراض ہیں، شیخ کے لیے دل میں بدگمانی رکھنا حرام ہے جبکہ وہ مریدِ معافی بھی مانگ لے، جب معافی مانگ لی تو پھر دل میں کیوں رکھے لیکن اندیشہٴ صدورِ خطا کی وجہ سے وہ کبھی کبھی مستقبل کے لیے لائحہٴ عمل پیش کرتا ہے، اس سے ماضی کی کوئی خطامت سوچو کہ یہ ماضی کی کسی خطا پر سرزنش ہے، جب معاف کر دیا تو معاف کر دیا اَلثَّآئِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ جب تم لَا ذَنْبَ ہو گئے تو پھر دنہ کیوں بنتے ہو۔

شیطانِ قلبِ مومن کو غمگین رکھنا چاہتا ہے

شیخ کی ناراضگی کا خیال شیطان کی طرف سے سخت حجاب ہے، شیطان غم کی بات بلا وجہ دل میں ڈالتا ہے، کبھی خواب میں دکھا دیتا ہے کہ بیوی بہت بیمار پڑی ہوئی ہے کبھی یہ کہ میرا بیٹا پانی میں ڈوب رہا ہے ایسے میں اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھ کر تین دفعہ بائیں طرف تھوک دو اور فکر ہی نہ کرو، خوابوں سے کچھ نہیں ہوتا اور شیطان تو ہے ہی دشمن، وہ ایسے وسوسے ڈالتا

ہے کہ جس سے بندہ مایوس ہو جائے، مومن کو مایوس کرنا، غمزدہ کرنا یہ اس کے مقاصد میں سے ہے، یہ مقاصد ابلیس میں داخل ہے، کیسا جملہ ہے یہ؟ وہ چاہتا ہے کچھ نہ ہو تو کم سے کم مومن کے دل کو غمگین ہی کر دو، اس کو نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی بلا ہے، عافیت سے سمو سے کھار ہا ہے تو کم سے کم دل ہی میں کوئی خیال ڈال کر غمزدہ کر دو، دشمن کا کام ہی یہی ہے، اس لیے کبھی قلب کو مایوس نہ ہونے دو، اللہ کی رحمت کا امیدوار رکھو۔

(میر صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ) اگر خدا کی رحمت نہ ہوتی تو آپ میرے ساتھ ہی نہ ہوتے، آپ اسٹیل مل میں یا اور کہیں نوکری کرتے لیکن عقل کا ایک معیار ہے، بعضوں کی عقل بیماری کی وجہ سے کچھ کمزور ہو جاتی ہے تو عقل کی کمی سے مایوس مت ہو، یہی سمجھو کہ میری عقل ہی چھوٹی ہے۔ بعض لوگوں کی عقل بچوں جیسی ہو جاتی ہے، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ دماغ اور عقل بالکل بچوں جیسی ہو جاتی ہے۔

چنانچہ ایک لڑکا تھا وہ کھانا کم کھاتا تھا، اس کا باپ سپاہی تھا تو اس نے کہا کہ تم کھانا پورا کھاؤ، ہم کھانے کا پیسہ یہاں جمع کرتے ہیں تو وہ لڑکا جس کی خوراک تین روٹیوں کی تھی وہ پھر بھی ایک ہی روٹی کھاتا تھا، کسی نے اس سے پوچھا: تم کیوں اتنا کم کھاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے ابا کو زیادہ پیسہ دینا پڑے گا، اس لئے کم کھاتا ہوں، میں اپنے ابا کا پیسہ بچا رہا ہوں تو لوگوں نے کہا کہ تیرے باپ نے تو پورے کھانے کا پیسہ جمع کر دیا ہے مگر اس کی سمجھ میں بات ہی نہیں آتی تھی۔ اللہ سے عقل سلیم مانگو اور عقل سلیم پر فضل عظیم مانگو، ان شاء اللہ سلامت رہو گے۔

اور اللہ سے یہ دعا تو روزانہ کرو کہ یا اللہ میری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، چیونٹی کو بھی ہم چلنے میں نہ دبا دیں اور سب سے زیادہ میں اپنے

محسن، مربی اور شیخ کے لیے آپ سے چاہتا ہوں کہ ان کا دل ہم سے خوش رہے
 قولاً وفعلاً۔ یہ دعا میں وہ بتا رہا ہوں جو میں اپنے شیخ کے لیے کرتا ہوں کہ یا اللہ
 میری کسی تحریر سے، کسی عمل سے شیخ کو کبھی کوئی اذیت نہ پہنچے۔ آج یہ راز کی
 بات بتادی، ابھی تک کسی کو نہیں بتائی تھی، میرا صاحب کو بھی نہیں بتائی تھی، آج
 میں نے یہ راز ظاہر کر دیا کہ یا اللہ میرے شیخ کے قلب میں مجھے سب سے زیادہ
 پیارا بنا دے اور یہ دعا گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ یا اللہ! آپ کو ایک لمحہ ناراض
 کر کے حرام خوشی کو اختر اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے احباب کے لیے
 جہنم سے زیادہ تکلیف دہ سمجھتا ہے، اے خدا اپنی رحمت سے آپ ہم سب سے
 خوش ہو جائیے، ہم آپ کی خوشی چاہتے ہیں اور آپ کی ناراضگی سے حفاظت
 مانگتے ہیں اور اے اللہ ہم سب کی عقل پر اپنے فضل کا سایہ فرما، کیسی پیاری دعا
 ہے یہ کہ ہم سب کی عقل پر اپنے فضل کا سایہ فرما اور شیخ سے حسن ظن دے دے
 اور شیطان کی بدگمانیوں سے ہمارے قلب کو پاک فرما، آمین۔

سُوءِ الْقَضَاءِ كى شرح

وَدَرَّتِ الشَّقَاءَ كى بعد سُوءِ الْقَضَاءِ ہے کہ اے اللہ! وہ فیصلے جو
 میرے لیے مضر ہیں ان سے ہمیں پناہ دے دیجیے، یہاں قضاء مصدر ہے اور
 جب مصدر پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں کے
 معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اگر یہاں اسم فاعل
 کے معنی میں لوگے تو کفر کا خطرہ ہے کہ بحیثیت قاضی کے اللہ کے فیصلے پر سُوء
 لگا رہے ہو، اگر تم نے سُوء لگایا تو برائی کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے گی لہذا
 یہاں قضاء اسم مفعول کے معنی میں ہے یعنی سُوءِ الْمُقْضَى ہے جس کے لیے
 آپ یہ فیصلہ فرما رہے ہیں اس کے حق میں تو مضر ہے لیکن آپ کا فیصلہ حکیمانہ

ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس میں کوئی سُوء نہیں ہے تو یہاں قضا مصدر معنی میں اسم مفعول کے ہے یعنی سُوء کی اضافت بحیثیت اللہ کے قاضی ہونے کے نہیں ہے بلکہ بحیثیت مقضی کے ہے کہ اے اللہ! جو ہمارے لیے مضر فیصلے ہیں ان کو آپ مفید فیصلے سے تبدیل فرمائیے۔

مولانا رومی کا یہ جملہ مجھے بہت پسند آیا کہ اے خدا! آپ کا فیصلہ اور آپ کی قضا آپ کی محکوم ہے آپ پر حاکم نہیں ہے۔ آہ! یہ جملہ اس قدر عارفانہ مقام کی دلالت کرتا ہے جس کی حد نہیں۔ اللہ پر کوئی چیز حکومت کر سکتی ہے؟ لہذا جب آپ کی قضا آپ کی محکوم ہے تو آپ اس قضا کو کر اس (X) کر کے میرے لیے مفید فیصلہ کر دیجئے ورنہ جو فیصلہ کرنے کے بعد مجبور ہو جائے وہ خدا کیسا ہے، مخلوق جو کہتی ہے کہ اللہ کا لکھا ٹلتا نہیں ہے تو اسے مخلوق نہیں ٹال سکتی لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اللہ میاں بھی اپنا لکھا نہیں کاٹ سکتے۔

کفر ہم نسبت بخالق حکمت است

کفر بھی جو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کی طرف سے وہ حکمت ہے، اب کیا حکمت ہے جنت میں یہ سب راز اللہ ظاہر کر دے گا۔ یہاں بس ایمان لاؤ، اللہ ہمیں کفر سے بچادے۔

بعض کفار کے قلوب پر مہر کفر ثبت ہونے کی وجہ

اسی طرح حق تعالیٰ کا یہ فیصلہ جو قرآن پاک میں ہے:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾

(سورۃ النحل، آیت: ۱۰۸)

ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو یہاں بھی یہی وسوسہ آسکتا ہے کہ بھی اللہ نے مہر لگا دی تو کسی کافر کے کافر ہونے میں اس کا کیا قصور ہے؟ تو اس کا جواب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے دیا:

﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾

(سورۃ النساء، آیت: ۱۵۵)

ان کی بد معاشریوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ انہوں نے اس قدر کفر و بغاوت کیا، نبیوں کو قتل کیا کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر اپنا غضب نازل فرمایا، یہ انزالِ عقوبت ہے، انتقام ہے، یہ غضب الہی ہے، إِزَادَةُ الْإِنْتِقَامِ مِنَ الْعَصَاةِ ہے تو اللہ نے خود فرما دیا کہ میں نے ان پر جو مہر لگائی وہ میری وجہ سے نہیں ہے انہی خبیثوں کی وجہ سے ہے، مسلسل کفر کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے تو بوجہ کفر و سرکشی، اگر اللہ سزا دے تو یہ عین عدل ہے۔

یہ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے، فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دینا کہ ان کو ہدایت نصیب نہ ہو یہ ظلم نہیں ہے کیونکہ یہ مہر بِكُفْرِهِمْ ہے، کیوں کفر کیا تم نے؟ اور کفر بھی کیسا؟ مسلسل، مانتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے سب حکمت کے ساتھ ہے، اللہ کا ہر فعل حکیمانہ ہے، کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، یہی اجمالی ایمان کافی ہے جیسے تقدیر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ہماری قسمت میں تو لکھا ہوا تھا کہ میں چوری کروں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر اللہ نہ لکھتے تو میں چوری نہ کرتا، اللہ نہ لکھتے تو میں زنا نہ کرتا، سب ان ہی کا لکھا ہوا ہے لہذا میں ویسا ہی کر رہا ہوں تو اس کا جواب میرے شیخ نے دیا کہ تقدیر امرِ الہی کا نام نہیں ہے کہ اللہ تم کو حکم دے کہ زنا کرو، اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ تقدیر نام ہے علمِ الہی کا کہ جو تم اپنے ارادوں سے کرنے والے ہو وہ میں نے لکھا ہے، تقدیر نام ہے علمِ الہی کا نہ کہ امرِ الہی کا کیونکہ اللہ کو تمہارے ماضی، حال اور مستقبل کا پورا علم ہے کہ تم نے کیا کیا ہے اور کیا کرو گے؟ جیسے اخبار میں آجائے کہ آج یہاں منڈیلا آئے گا تو

اخبار کی وجہ سے وہ تھوڑی آتا ہے اس کے آنے کا جو ارادہ تھا وہ اخبار نے شائع کر دیا، منٹویا یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی چونکہ اخبار میں آ گیا ہے اس لیے مجھے آنا پڑا، علم الہی اور ہے امر الہی اور ہے، اللہ حکم نہیں دے سکتا کسی برائی کا، وہ پاک ہے، لیکن تم اپنی خباثت طبع سے جو گناہ کرنے والے ہو اللہ کو اس کا علم ہے تو اپنے علم کو اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا اور پھر یہ بھی ہے کہ علم الہی میں ہے کہ یہ فلاں وقت میں شراب پیئے گا یا زنا کرے گا مگر اس کے آگے یہ بھی لکھا رہتا ہے کہ میری توفیق تو بہ سے یہ تو بہ کر کے جنت میں جائے گا۔

جیسے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے حالت کفر میں ایک صحابی کو قتل کر دیا تھا، جب یہ صحابی شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جائیں گے، کیسے؟ حضرت عکرمہ نے صحابی کو شہید کیا تو وہ صحابی جنت میں گئے اور حضرت عکرمہ بعد میں مسلمان ہو گئے لہذا وہ بھی جنت میں جائیں گے، حالانکہ اس وقت حضرت عکرمہ اسلام نہیں لائے تھے لیکن وحی الہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوح محفوظ پر لکھا ہوا فیصلہ معلوم ہو گیا تھا۔

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ رحمت دیکھئے کہ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے ان کے مسلمان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ تم لوگ اس کے ابا کا نام نہ لینا، یہ نہ کہا کرو کہ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے تاکہ عکرمہ کو شرمندگی نہ ہو کہ میں اتنے بڑے دشمن کا بیٹا ہوں۔ کیا یہ شانِ رحمت نہیں ہے کہ حضرت عکرمہ جب ایمان لانے مدینہ شریف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو پیار کیا اور صحابہ کو منع کر دیا کہ ان کی نسبت ابو جہل کی طرف مت کرو، یہ مت کہو کہ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے تاکہ ان کو ندامت نہ ہو۔

شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ كى شرح

توسوؤ القضاۃ کی تشریح ہوگئی، آگے ہے وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ ایسی حالت نہ ہو کہ دشمن ہنسے کہ بہت بڑے مولوی اور صوفی بنتے تھے اور اگر ایذائے شیخ کی وجہ سے ایک بظاہر عاشق شیخ خانقاہ سے نکالا جائے اور ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جائے تو یہ بھی وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ ہے کہ لوگ کہیں کہ صاحب یہ تو بڑے عاشق بنتے تھے۔ حالانکہ یہ اتنا آسان پرچہ ہے کہ جس کی حد نہیں کہ خطا ہوئی تو کہہ دو کہ معافی چاہتا ہوں۔

تو اللہ تعالیٰ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ سے بچائے، دشمن کے ہسنے سے بچائے، جیسے ایک شخص ہے جو ہر وقت کہتا ہے کہ بد نظری سے بچو، کسی کالی گوری کو مت دیکھو اور وہی زنا میں مبتلا ہو جائے نعوذ باللہ تو جتنے لوگوں کو اس نے کہا تھا کہ نظر کی حفاظت کرو وہ کیا کہیں گے کہ میاں ہم لوگوں کو نظر بچانے کی ہدایت کر رہے تھے اور خود نظر سے بھی آگے بڑھ گئے، اللہ بچائے ہر قسم کی رسوائیوں سے۔

بتاؤ! مدلل تقریر ہوئی یا نہیں؟ ہر ہر لفظ کی شرح کر دی جھڈا البلاء کی شرح کی، دَرْكِ الشَّقَاءِ کی شرح کی یعنی بد نصیبی کے پکڑ لینے سے کہ آئندہ کوئی بد نصیبی ہم کو نہ پکڑے اور سُؤءِ الْقَضَاءِ کی شرح کی کہ اے اللہ! ماضی میں اگر آپ نے میری قسمت میں کچھ مضر فیصلہ لکھ رکھا ہو تو اس کو کراس کر کے مفید فیصلے سے تبدیل کر دیجئے، تو ہمارے پیارے نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی اور مستقبل دونوں کی مضر توں سے بچا لیا، دَرْكِ الشَّقَاءِ سے ہم کو مستقبل کی بد نصیبیوں سے بچایا اور سُؤءِ الْقَضَاءِ سے بھی بچا لیا کہ ماضی میں ہمارے لیے اللہ نے کوئی فیصلہ لکھا ہو اور وہ ہمارے حق میں برا ہو تو اس کو کراس کر دے، سوء قضا کو حسن قضا سے بدل دے۔ درس قرآن بھی ہو گیا، درس حدیث بھی ہو گیا۔

ازالہ حجاباتِ معصیت کے لئے ایک دعا اور اس کی شرح

بس اب کیا کہوں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے راستہ کے آداب میں جس قدر کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے **وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ**۔ **وَاعْفُ عَنَّا** ہم کو معافی دیجئے یعنی ہمارے گناہوں کے گواہوں اور نشانات کو مٹا دیجئے، **وَاعْفِرْ لَنَا** آج **بِسِتْرِ الْقَبِيحِ وَإِظْهَارِ الْجَمِيلِ** یعنی ہماری برائیوں کو چھپا لیجئے اور ہماری نیکیاں ظاہر کیجئے، **وَارْحَمْنَا** ای **تَفَضَّلْ عَلَيْنَا بِفُضُولِ الْأَلَاءِ مَعَ اسْتِحْقَاقِنَا بِأَقَابِنِ الْعِقَابِ** اور ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازش فرمائیے۔ فن کی جمع فنون اور فنون کی جمع افانین اور عقاب معنی سزا یعنی جو طرح طرح کی سزاؤں کا مستحق ہے اس پر آپ طرح طرح کی نعمتیں برسا دیجئے کیونکہ ہم نے معافی مانگ لی، بخشش مانگ لی، اب آپ ہم پر رحم بھی کر دیجئے۔

اس کے علاوہ **وَاعْفُ عَنَّا** میں ضمیر مستتر ہے، ضمیر کی دو قسمیں ہیں: نمبر ۱: ضمیر مستتر، نمبر ۲: ضمیر بارز، تو معافی مانگنے سے پہلے چونکہ تمہاری آنکھوں میں گناہوں کی وجہ سے موتیا اُترا ہوا تھا تو حالتِ گناہ میں اور حالتِ ظلماتِ معصیت میں ہونے کی وجہ سے تم ہم سے حالتِ استنار میں تھے، گناہوں کے اندھیروں کی وجہ سے مجھ سے تھے، حجابات میں تھے، تم ہم کو نہیں دیکھ سکتے تھے اس لیے تم کو ضمیر بارز کی اجازت نہیں تھی، ضمیر مستتر کی اجازت تھی **وَاعْفُ عَنَّا**، **وَاعْفِرْ لَنَا**، **وَارْحَمْنَا** سب میں ضمیر مستتر آنت چھپی ہوئی ہے کہ آپ معاف کر دیجئے مگر آنت کہنے کی اجازت نہیں ہے لیکن جب ہم نے تم کو معاف کر دیا،

جب مغفرت ہوگئی، معافی ہوگئی، تم سے ہم نے حجابات ہٹا لیے اور تم انوار کے عالم میں آگے تو گناہوں کی وجہ سے جو ضمیر مستتر تھی وہ ختم ہوگئی، لہذا اب اَنْتَ مَوْلَانَا کہو کہ آپ ہی میرے مولیٰ ہیں، جب حجابات ہٹ گئے اور ہم نے اپنے غصے کے پردے ہٹا لیے تو اب تم میرے سامنے ہو۔

تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے
دونوں جانب سے اشارے ہو چکے

لہذا اب کہو اَنْتَ مَوْلَانَا اب اَنْتَ کی اجازت ہے، اَنْتَ بتا رہا ہے کہ گناہوں کے حجابات ختم ہو چکے ورنہ جب تک وہ سامنے نہ ہوں کوئی اَنْتَ نہیں کہہ سکتا یہی دلیل ہے کہ اب تمہارے سامنے سے گناہوں کے حجابات ہٹ گئے، اب ہم کو اَنْتَ مَوْلَانَا کہو۔

اَنْتَ مَوْلَانَا کی تین تفسیریں ہیں، اَنْتَ سَيِّدُنَا آپ میرے سردار ہیں، آقا ہیں، وَمَالِكُنَا اور آپ ہمارے مالک ہیں، وَمُتَوَلِّيْ اُمُوْرِنَا اور ہمارے اُمور کے اور کاموں کے بنانے والے ہیں فَاَنْصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ اب ہمیں دشمنوں سے نہ پٹوایئے کہ ہم آپ کے بن چکے ہیں۔ یہ روح المعانی کی تفسیر ہے۔ واہ رے مفسرِ عظیم علامہ آلوسی! یہ صاحب نسبت بزرگ تھے، مولانا خالدِ گردی کے مرید تھے۔ وَاَعْفُ عَنَّا... الخ کی یہ تفسیر لکھ لو، آپ کو پکی پکائی کچھڑی مل گئی ورنہ کتابوں میں تلاش کرنے میں بڑی محنت لگتی۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰى
خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ

